

وَقُلْ لِلّٰهُمُ مَنِّتِ يَعْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ  
”اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں“

قُلْ لِلّٰهُمُ مَنِّينَ يَعْضُضُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ  
”اے نبی! مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں“

www.KitaboSunnat.com

# افاقِ نظر اور انکا علاج

ارشاد الحق اشرفی

ناشر:

إدارة العلوم الاثرية ، سنگمى بازار فيصل آباد فون : 642724

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ  
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی  
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے  
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ [KitaboSunnat@gmail.com](mailto:KitaboSunnat@gmail.com)

🌐 [www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيِّبٍ لَآمِيَةٍ  
میں اللہ کے کلمات نامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں

# افاقِ نظر اور انکسلاج

www.KitaboSunnat.com

ارشادِ اہل بیت (ع)

ناسر

ابو البرکات العباسی (ع)

منٹگمری بازار، فیصل آباد۔ فون: 041-642724

(جملہ حقوق محفوظ ہیں)

نام کتاب : آفات نظر اور ان کا علاج

مؤلف : ارشاد الحق اثری

تاریخ طباعت : اپریل 2008ء

ناشر : ادارۃ العلوم الاثریہ، منگمری بازار فیصل آباد پاکستان

فون 041-642724

مطبع : انٹرنیشنل دارالسلام پرنٹنگ پریس، 36 لوئر مال لاہور

## فہرست

www.KitaboSunnat.com

6	..... پیش لفظ
10	..... آنکھ عظیم نعمت ہے۔
13	..... آنکھ کی حفاظت
14	..... اس کے قدردان کم ہیں
15	..... اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نعمت کا سوال ہوگا
18	..... اللہ تعالیٰ چاہے تو بصارت چھین لے
19	..... آنکھ کا شکر
19	..... بصارت چلے جانے کا بدلہ
20	..... بصیرت سے محرومین کا انجام
21	..... آنکھ افضل یا کان
25	..... نماز نیکی کا منبع ہے
27	..... آنکھ اور نماز
29	..... نماز اور معراج
30	..... نظر کی حفاظت
32	..... غیر محرم کو دیکھنا
34	..... غضب بصر اور عیسائی مذہب
35	..... سر راہ بیٹھنا

- 37 ..... غص بصر کا اجر
- 41 ..... نظر بازی کا فتنہ اور اس کے نتائج
- 48 ..... شر بصر اور فتنہ نساء سے پناہ
- 49 ..... غص بصر اور ہمارے اسلاف
- 56 ..... بینائی چھیننے والا بحال کرنے پر بھی قادر ہے
- 58 ..... امر و کود کھینا
- 64 ..... محرّمات کود کھینا
- 64 ..... تصویر بینی
- 66 ..... بد نگاہی کا انجام
- 70 ..... کسی کے گھر جھانکنا
- 72 ..... کسی کے خط کود کھینا
- 72 ..... مخطوبہ کود کھینا
- 74 ..... منخث کا دیکھنا
- 75 ..... شر مرگاہ کود کھینا
- 77 ..... خاوند کے پاس دوسری عورت کا تذکرہ
- 78 ..... غیر مسلم عورتوں کے سامنے ستر کا اہتمام
- 78 ..... مجذوم کود کھینا
- 79 ..... ٹوٹتے ہوئے ستارے کود کھینا
- 79 ..... اپنے سے افضل کود کھینا
- 81 ..... آئینہ دیکھنے کی دعا
- 81 ..... مریض کود کھینا
- 82 ..... کسی نشانی (آیة) کود کھینا
- 83 ..... ناپسندیدہ خواب دیکھنا

- 84 ..... نیا چاند دیکھنے پر
- 85 ..... چاند دیکھنے پر
- 85 ..... ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیز دیکھ کر
- 86 ..... آندھی کودیکھ کر
- 86 ..... باراں کے وقت
- 87 ..... کسی منکر کودیکھ کر
- 87 ..... نظر بد کی حقیقت
- 90 ..... نظر بد کا علاج
- 91 ..... فساد نظر سے بچنے کا طریقہ
- 94 ..... اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ
- 95 ..... آنکھ اور دل کا مناظرہ

## پیش لفظ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، اما بعد:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں ایک بڑی نعمت آنکھ ہے۔ آنکھ قدرت کا کرشمہ ہے اور صانع مطلق کی کارگیری کی ایک زندہ و پائندہ مثال ہے۔ یہ گواہ اپنے مدار میں مختصر سا حاسہ اور جسم کا ایک نازک ترین حصہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت، لطافت، تیزی اور پھرتی بھردی ہے کہ انسان اس کی بدولت لمحہ بھر میں فرش و فلک اور ان کے مابین ان گنت اشیاء کا نظارہ کرتا ہے۔ اور مخلوق خدا کی بوقلمونی کو دیکھ کر بول اٹھتا ہے۔

﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (ابراہیم: ۱۰)

اور یہ بھی کہ

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (ال عمران: ۱۹۰)

زبان بھی بلاشبہ ایک بڑا انعام ہے۔ زبان دل کی ترجمان ہے اور موجود و معدوم یا وہم و خیال کے اظہار کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی کی بدولت مسلمان دولت ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید، تکبیر و تہلیل بیان کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم انسان پر اپنے انعامات کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں سرفہرست آنکھ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝﴾

(البلد: ۸-۱۰)

کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں نہیں بنائیں، اور زبان اور دو ہونٹ

نہیں بنائے اور اس کو دو راستے سمجھادیئے۔



جسم انسان میں دل کی حیثیت بادشاہ و حاکم کی ہے، دل کی چند غیر معتدل حرکتیں انسان کے جسمانی نظام کو بڑی بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ عملی اور روحانی اعتبار سے بھی اس کی یہی حیثیت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ

”إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنْ

فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ“ (بخاری و مسلم)

جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے اور اگر یہ خراب

ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔

دل رذائل سے صاف اور پاک ہو تو نیکی کے پھول کھلتے ہیں اور اگر اس پر معصیت و ادبار کی گھٹائیں چھا جائیں تو انسان حیوان سے زیادہ درندہ اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ مگر دل۔ جو گوشت اور ہڈیوں کے غلاف میں محفوظ ہے۔ کو متاثر کرنے والی اور باہر کے اثرات مرتب کرنے والی عموماً دو چیزیں ہیں۔ ایک آنکھ اور دوسری کان۔ آنکھ کا نظارہ ہی عموماً دل کے بہکنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کے اس پر فتن دور میں بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جو آنکھ کی ہولناکیوں سے محفوظ ہیں، ورنہ عموماً انسان بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان اس مصیبت میں گرفتار اور آنکھ کی بیماریوں کا اسیر ہے۔ گلی محلے کے چوراہوں میں، بازار اور دکان میں نظر بازی کے اسی مرض نے قوم کو بے حیا بنا دیا ہے۔ اخلاق تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ بلکہ یہ مرض سرطان کی طرح ہر سو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے آنکھ سے ہونے والی بے اعتمادی اور ہولناکی سے خبردار فرمایا اور کہا کہ آنکھ کا بھی زنا ہے۔ اسی طرح راگ اور گانا، عشق و محبت کی داستاںیں فحش و بے حیائی کی پڑنی کہانیاں جب کان تک پہنچتی ہیں تو اس سے بھی دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت فضیل بن عیاضؓ نے اسی بنا پر فرمایا تھا کہ ”الْغِنَاءُ رُفِيَةُ الزَّانَا“ کہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسی وجہ سے کان اور آنکھ کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔ گانا وغیرہ سننے سے منع فرمایا اور آنکھ کی آوارگی سے روکا۔

زیر نظر رسالہ میں ہم نے کتاب و سنت اور آثار سلف کی روشنی میں آنکھ سے پیدا ہونے والے فتنوں اور ان کے انجام سے خبردار کیا ہے اور ان سے محفوظ رہنے اور بچنے کا

طریقہ ذکر کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں آنکھ کے متعلق بعض دیگر مفید مباحث کا تذکرہ بھی آ گیا ہے جو یقیناً قارئین کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اِنْ شَاءَ اللہ۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے سب مسلمانوں کی اصلاح و بھلائی کا ذریعہ بنائے (آمین)

## حضرات!

یہ ادارہ علوم اثریہ فیصل آباد کی پچیسویں (۲۵) پیشکش ہے علاوہ ازیں ادارہ نے ”مسند الامام ابی یعلیٰ، العلل المتناہیة“ وغیرہ جیسی ضخیم اور نایاب کتابیں بھی شائع کی ہیں جو عالم اسلام میں پہلی بار منصفہ شہود پر آئیں۔ یہ سب فیضان ادارہ کے بانی حضرات کے خلوص اور اللہیت کا نتیجہ ہے۔ میری ان سے مراد ہے:

❖ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ

❖ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسحاق چیمہ غفرلہ

❖ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد رفیق صاحب مدن پوری رحمہ اللہ

افسوس ادارہ بہت جلد اپنے ان محسنین سے محروم ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ان کیلئے صدقہ جاریہ بنائے (آمین)

اسی طرح ٹھوس علمی بنیادوں پر خدمت دین سرانجام دینے میں جو حضرات داے درمے سخن قدم ادارہ سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حسنت کو بھی قبول فرمائے اور اسے ان سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔

این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

انتہائی ناپاسی ہوگی اگر میں یہاں محترم حکیم محمد شریف احسن صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں۔ جنہوں نے پورے مسودہ پر عمیق نگاہ ڈالی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ اسی طرح برادر عزیز رفیق ادارۃ العلوم الاثریہ مولانا عبدالحی انصاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کتاب کی تصحیح و ترتیب اور اس کے پروف پڑھنے میں بھرپور تعاون کیا۔ جزاھما اللہ احسن الجزاء۔

ارشاد الحق اثری عفی عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

انسان کو نقاشِ ازل نے کچھ اس سلیقے سے بنایا کہ یہ اس کی صنایع اور کاریگری کی ایک زندہ جاوید مثال بن گیا ہے۔ اس کو اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ”خَلَقْتُ بِيَدَيَّ“ اور اسے ”احسن تقويم“ کا شرف بخشا۔ اس کے جسم کا ہر ایک عضو صانعِ مطلق اور خالقِ کل کے کمال کا مظہر ہے۔ علامہ قرطبی نے عجیب بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ قدرتِ الہی کی بوقلمونی دیکھئے کہ عالم دنیا۔ جسے حکماء ”عالم کبیر“ کہتے ہیں۔ کی ہر چیز کی نظیر عالمِ صغیر یعنی حضرت انسان میں بڑے ڈھب سے سجادی گئی ہے۔ انسانی حواس کو اکبِ معیہ سے اشرف ہیں۔ اشیاء کے ادراک میں آنکھ اور کان بمنزلہ شمس و قمر ہیں۔ اس کا خمیر مٹی سے ہے تو یہ بالآخر مٹی ہی میں جائے گا۔ اس میں رطوباتِ جسمانیہ پانی کی جنس سے ہیں۔ روح اور نفس جنسِ ہوائی ہیں آگ کا عنصر پتا اور صفراء ہے۔ اس کی رگیں بمنزلہ نہروں کے ہیں۔ جگر بمنزلہ چشمہ کے ہے تو مثانہ کی صورت سمندر کی سی ہے کہ جسم کا پانی اس کی طرف عود کرتا ہے۔ ہڈیاں بمنزلہ پہاڑوں کے ہیں جو زمین کیلئے میخیں ہیں۔ اس طرح انسانی ڈھانچے کا قیام ہڈیوں کی بدولت ہے۔ اس کے اعضا بمنزلہ درختوں کے ہیں۔ پھر جیسے درختوں کے پتے اور پھول جدا جدا ہوتے ہیں اسی طرح ہر عضو کا عمل و اثر علیحدہ علیحدہ ہے۔ جسم کے بالوں کی مثال زمین پر نباتات اور گھاس وغیرہ کی ہے۔ پھر جیسے بعض پودوں کی حفاظت اور بعض کو کاٹ دیا جاتا ہے ویسے ہی بالوں میں بھی یہی عمل جاری و ساری رکھا گیا ہے۔ انسان زبان سے ہر حیوان کی بولی بول سکتا ہے اور اپنے اعضا سے اس کی نقل و حرکت کی عکاسی کر سکتا ہے۔ تو یوں یہ چھوٹا سا انسان اس

عالم کبیر کا عالم صغیر ہے۔ (تفسیر احکام القرآن للقرطبی ص ۲۰۲، ۲۰۳ ج ۲) مزید عرض ہے کہ جسم انسان میں معدہ کی کیفیت تالاب اور جوہڑ کی سی ہے جسے عند الضرورت صاف رہنا چاہیے۔ ورنہ یہ تعفن پیدا کر کے سارا مزا کر کر کر دے گا۔ سمندروں کی گہرائی اور گیرائی کا تصور دل کی گہرائیوں میں پنہاں ہے۔ پھر جس طرح سمندروں سے آبی بخارات اٹھ کر ہمالیہ سے نکل کر برسات کا سبب بنتے ہیں اور یہی بارش اس مردہ زمین کو تازگی بخشتی ہے اسی طرح دل کے سمندر سے بخارات اٹھ کر دماغ کے ہمالیہ سے نکلواتے ہیں تو آنکھوں سے ”بارش“ برستی ہے جس سے ایمان کی کھیتی لہلہاتی ہے اور مردہ دلوں کو جلاتی ہے۔

خالق مطلق کی اسی صنعت گری کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاریات: ۲۱) ”کہ خود تمہارے اپنے وجود میں اس خالق و مالک کے کمال کی نشانیاں موجود ہیں“ جسم انسان میں یوں تو ہر ہر عضو اور ایک ایک جوڑ عجائبات الہی کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا نتیجہ ہے۔ مگر اس کا ایک اہم عنصر اور عظیم ترین احسان آنکھ ہے۔

## آنکھ عظیم نعمت ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنے انعامات سے نوازا ہے کہ انہیں کوئی حیضہ شمار میں بھی نہیں لاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾

”کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے“

چہ جائے کہ یہ کمزور انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص یوم پیدائش سے لے کر مرنے کے وقت تک تمام لمحات اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی میں گزار دے تو وہ اسے بھی قیامت کے دن حقیر سمجھے گا۔ (احمد، طبرانی وغیرہ) کہ مجھ سے اللہ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہ

ہو سکا۔ انہی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت آنکھ ہے۔ جس کے بارے میں فرمایا:-

﴿الْمَنْ نَجَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا ۝ وَشَفْتَيْنِ ۝﴾ (البلدہ، ۹)

”کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے“

آنکھ کی اس نعمت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی کر سکتے ہیں جسے امام حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا تھا جو پہاڑ پر پانچ سو سال تک عبادت کرتا رہا۔ اس کے ارد گرد دریا تھا۔ پہاڑ پر پانی پینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت اگا دیا، وہ انار کھاتا اور بیٹھا پانی پیتا اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ فوت ہوتے وقت اس نے التجا کی، الہی حالت سجدہ میں میری روح قبض کی جائے۔ میرے جسم کو صحیح سالم رکھا جائے تاکہ قیامت کے دن میں سجدہ کی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ چنانچہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا۔ مگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے روز جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے مگر وہ کہے گا نہیں بلکہ میرے عمل کے بدلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے بندے کے اعمال اور میری نعمتیں جو میں نے اسے دی تھیں، کے مابین موازنہ کرو چنانچہ ایک آنکھ کی نعمت کا جب اس کے پانچ صد سالہ اعمال کے مقابلے میں وزن کیا جائے گا تو آنکھ کی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور باقی نعمتیں اس پر مستزاد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے اب جہنم میں پھینک دو پھر وہ عرض کرے گا الہی مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے واپس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے بتلاؤ تمہیں عدم سے وجود کس نے بخشا؟ عرض کرے گا اے اللہ! آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں پانچ سو سال تک عبادت کرنے کے قوت کس نے بخشی؟ اسی طرح تیرے کھانے کیلئے انار کا درخت کس نے اگایا

اور پینے کیلئے پانی کا چشمہ کس نے جاری کیا؟ عرض کرے گا اے اللہ! آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب میری رحمت سے ہوا۔ میری رحمت سے ہی تو جنت میں جائے گا۔ اور حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ (المستدرک للحاکم، والترغیب ص ۳۹۹-۴۰۱ ج ۴) اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔

امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ منذری نے الترغیب اور علامہ ابن قیم نے شفاء العلیل (ص ۱۱۴) میں ان کی موافقت کی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ جیسا کہ علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک اور میزان (ج ۲ ص ۲۲۸) میں کہا ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے تفصیل کے لئے دیکھئے (الضعیفہ نمبر ۱۱۸۳) تاہم معنوی طور پر اس کی تائید حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جاسکتا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا جناب آپ ﷺ بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ (بخاری، مسلم وغیرہ، راجع الصحیحہ نمبر ۲۶۰۲)

زبان اور ہونٹ سے انسان اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ کھانے پینے میں بھی یہ دونوں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جبکہ آنکھ سے انسان تمام خارجی محسوسات کا ادراک کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صنایع اور کاریگری کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آنکھوں کی اس اہمیت کی بنا پر کہا جاتا ہے ”آنکھ ہے تو جہان ہے، آنکھ نہیں تو جہان نہیں“ اور یہ بھی کہ ”آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل“ یا ”آنکھ اوٹ پہاڑ اوٹ“ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”آنکھ مندی اندھیرا پاک“ یعنی آنکھ بند ہونے کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔

## آنکھ کی حفاظت

آنکھ کی اسی عظیم نعمت کا تقاضا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے آنکھوں میں سرمہ لگانے کی تاکید فرمائی ہے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور خود بھی روزانہ رات کو سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائیاں سرے کی ڈالتے تھے۔ (ترمذی وغیرہ) امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ مگر یہ روایت حسن نہیں بلکہ سخت ضعیف ہے اس کے برعکس حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دائیں آنکھ میں تین بار اور بائیں آنکھ میں دو بار سرمہ ڈالتے تھے یعنی تین سلائیاں دائیں میں اور دو بائیں آنکھ میں۔ علامہ البانی نے (السلسلة الصحيحة رقم ۶۳۶) میں اسے ذکر کیا ہے اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ کی سابقہ روایت پر تفصیلاً نقد کیا ہے۔

سیاہ سرمہ ہر دور میں نظر کی تقویت اور آنکھ سے ردی مواد کے اخراج کا سبب سمجھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ نے ”اشد“ کی بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آنکھوں کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کو آگاتا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، فی الشمائل وغیرہ)

حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ”اشد“ وہ سیاہ پتھر ہے جو اصفھان سے آتا ہے اور مغرب سے بھی یہ درآمد کیا جاتا ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے اور بینائی کو طاقت دیتا ہے بالخصوص جبکہ اس کے ساتھ کچھ کستوری بھی ملائی جائے۔ آنحضرت ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ سوتے وقت کستوری ملا ہوا اشد سرمہ لگاؤ (زاد المعاد) اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ”نہ کماتہ“ یعنی کھنسی کے پانی کو آنکھ کے لئے شفا فرمایا ہے امام نووی نے لکھا ہے اس کا مجرد پانی فی الواقعہ شفا ہے۔ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے ہمارے زمانے میں بعض نابینا حضرات نے بھی اس کا تجربہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی درست فرمادی اور وہ شیخ کمال دمشقی ہیں جو حدیث کے استاد ہیں انہوں نے سچے اعتقاد سے کھنسی کا پانی آنکھوں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بحال کر دی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اسے بعض دیگر ادویہ کے ہمراہ استعمال کرنا چاہیے۔ آنکھ کی حفاظت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے آرام بہم پہنچایا جائے۔ ٹیلی ویژن، وی سی آر وغیرہ کو دیکھنے کے لئے مسلسل بیدار رہنا تو کجا ہمیشہ شب بھر عبادت میں وقت صرف کرنے کا عزم کرنے والے صحابی سے بھی آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔ ”وَلَعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ“ کہ تیرے اوپر تیری آنکھ کا حق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کے لئے کوئی

دقیقہ اٹھا نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لئے جو قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں اتنی گیرائی اور گہرائی ہے کہ کسی اور قانون کی طرف التفات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ انسانی جان ہی نہیں انسان کے ایک ایک عضو کی حفاظت کیلئے بھی قانون متعین فرمایا۔ آنکھ ہی کو لیجئے اگر کوئی کسی کی ایک آنکھ ضائع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی قصاص لینے کا حکم فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے بصورت دیت، نصف دیت یعنی پچاس اونٹ وصول کئے جائیں گے اور اگر دونوں آنکھیں ضائع کر دیتا ہے تو پوری دیت وصول کی جائے گی۔ (نصب الرایہ، بیہقی وغیرہ) جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی آنکھ کی قدر و منزلت کیا ہے اور اس کے ضائع کرنے والے کی سزا کیا ہے؟

## اس کے قدر دان کم ہیں

مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے قدر دان بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں۔

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ﴾ (السجدة: ۹، الملک: ۲۳)

”اور تم کو کان دیئے آنکھیں دیں اور دل دیا تم لوگ کم ہی شکر گزار

ہوتے ہو۔“

چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے کان اس کا کلام گوش ہوش سے سنتے۔ اس کے عطا کردہ دل سے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کی دی ہوئی بصارت سے بصیرت کا کام لیتے۔ تکوینی امور کو بنظر امعان دیکھتے اور ان سے سبق حاصل نہ کرنے والوں کا انجام دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے۔ اسباب کو دیکھ کر مسبب الاسباب کی معرفت حاصل کرتے۔ مگر افسوس تم نے ان سے کوئی کام نہ لیا۔ انہی بد نصیبوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَٰئِكَ كَأَلَا نِعَامٍ بَلْ هُمْ أَصْلٌ ﴿۱۷۹﴾

(الاعراف ۱۷۹)

”کہ ان کے دل ہیں مگر یہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں“

یعنی ان سے وہی کام لیتے ہیں جس سے ان کی دنیوی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر غور و فکر کرنے اس پر کان دھرنے اور بنظرِ عمیق اسے دیکھنے پر کھنے کا ان میں داعیہ ہی نہیں۔ جس طرح چوپایوں کے تمام ادراکات محض اپنے تن من کے لئے محدود ہیں اسی طرح ان کی ساری تگ و دو بھی اپنی ضروریات کیلئے ہے فطری صلاحیتیں ہوتے ہوئے بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بعض تو انتہائی بے عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مالکِ حقیقی کے مقابلے میں درختوں پتھروں جانوروں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ حیوانات ایسی حماقت کبھی نہیں کرتے۔ جس کا کھاتے ہیں اسی کے در کا ہورہتے ہیں مالکِ بلا تا ہے تو سر جھکا کر چلے آتے ہیں۔ اس لئے یہ حیوانات سے بھی بدتر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نعمت کا سوال ہوگا

انسان نے ایک نہ ایک دن اس دارالعمل سے نکل کر دارالجزاء میں پہنچنا ہے جہاں اسے زندگی بھر کے نامہ اعمال کا حساب چکانا ہے۔ اور اس دنیا میں جن ان گنت نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے ان کے بارے میں بھی سوال کا جواب دینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (التكاثر: ۸)

”پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا“

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے تو راستے میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوگئی آپ نے فرمایا

کیا معاملہ ہے؟ اس وقت گھر سے باہر کیسے آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا بھوک کی وجہ سے باہر کھانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا گھر سے باہر آنے کا سبب بھی یہی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ ایک انصاری حضرت مالک بن التیھانؓ کے گھر تشریف لائے۔ مگر وہ گھر پر نہ ملے۔ اہلیہ نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا آپ ﷺ نے حضرت مالکؓ کے بارے میں پوچھا تو بتلایا گیا کہ وہ بیٹھا پانی لینے کے لئے گئے ہیں۔ ابھی آجاتے ہیں۔ اچانک اسی وقت وہ بھی واپس آگئے تو آپ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ میرے پاس سب سے محترم مہمان تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک برتن میں خشک اور تازہ کھجوریں لا کر خدمت میں پیش کیں اور عرض کیا آپ یہ تناول فرمائیں وہ اٹھے چھری لی اور ایک بکری ذبح کی اور گوشت پکا کے خدمت میں پیش کیا آپ اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے جی بھر کر کھجوریں اور گوشت وغیرہ کھایا۔ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو نعمتیں ابھی تم نے کھائی ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا (صحیح مسلم) اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ ہر انسان سے صحت اور فرصت کے لمحات کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی؟ فرصت و فراغت کے لمحات نہیں دیئے تھے؟ ان کو تم نے کس طرح صرف کیا؟ اسی طرح آنکھ کان اور دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْتَوْلاً﴾ (الاسراء: ۳۶)

”بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا

جائے گا۔“

کہ یہ تمام قوی تم نے کہاں کہاں استعمال کئے تھے؟ کانوں سے کیا سنتا رہا ہے؟ قرآن پاک اور رسول اللہ ﷺ کے فرامین سننے یا خرافات، راگ، گانا بجانا سنتا رہا

ہے؟ انہیں سچائی کے سننے کا خوگر بنایا کہ وضعی قصے کہانیوں کا رسیا بنایا؟ تمہیں آنکھیں دی تھیں زندگی بھران کا مصرف کیا رہا؟ یہ تو تمہیں دی تھیں کہ صانع حقیقی کی کرشمہ سازیوں کو دیکھ کر تم پکار اٹھو! ﴿اَفْسَىٰ لِلّٰهِ شَكٌّ فَاَطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ”کیا اس اللہ کے بارے میں شک کی گنجائش ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا“ (ابراہیم: ۱۰)

اسی طرح فلک و فرش، شمس و قمر کے اس آفاقی نظام کا مشاہدہ کر کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤ کہ:

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا﴾ (آل عمران: ۱۹۱)

”اے ہمارے رب تو نے یہ سارا نظام بے مقصد اور عبث نہیں بنایا“

جھٹلانے والوں کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سبق حاصل کرتے۔ نامہ اعمال کو چشم بینا سے دیکھ کر آنسو بہاتے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لئے آرام و سکون کی نیند کی بجائے بیدار اور چوکنا رہ کر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے۔ آنکھوں کے صحیح مصرف کی بجائے اگر انہیں نظر بازی میں مصروف رکھا۔ سینما بینی، وی سی آر وغیرہ جیسے فحش اور بے ہودہ پروگرام پر لگایا۔ قرآن پاک دیکھنے کی بجائے بے مقصد اور لچر ناولوں کو دیکھنے پڑھنے پر لگائے رکھا، تو یہی آنکھیں اور جسم کے دوسرے اعضا قیامت کے روز بول بول کر انسان کے خلاف گواہی دیں گے یہی زبان کہے گی کہ اس نے میرے ذریعے فلاں فلاں کفر تو لا۔ گالی گلوچ، غیبت اور بہتان باندھا۔ اسی طرح جسم کے باقی اعضا بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے اس وقت انسان پریشانی کے عالم میں اعضا سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جس نے سب کو قوت گویائی بخشی اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا۔ یوں وہ حسرت و یاس کی تصویر بنا رہے جائے گا مگر:

اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چل گئیں کھیت

## اللہ تعالیٰ چاہے تو بصارت چھین لے

یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ ہیں۔ اس کی کوئی قیمت انسان ادا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی مطالبہ ہے۔ مطالبہ ہے تو بس اس بات کا کہ اس کو اللہ کی مرضی کی مطابق استعمال کیا جائے جہاں آنکھ کے تصرفات سے روکا ہے اس سے پرہیز کیا جائے ورنہ یہ نعت چھینی جاسکتی ہے۔

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ (یس: ۶۶)

”اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے سو وہ ان کو کہاں نظر آتا؟“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾  
(الملک: ۳۰)

”آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تلاؤا اگر تمہارا پانی غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارا (چشمے کا) پانی لے آئے۔“

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ذکر کیا ہے کہ ایک نادان حکیم نے یہ آیت سنی تو کہنے لگا اگر ایسا اتفاق ہو جائے تو ہم پھاؤڑے اور کدال کی مدد سے پانی زمین سے نکال لیں گے۔ یہ بات کہنی تھی کہ سیاہ موتیہ اس کے آنکھ میں اتر آیا اور بینائی جاتی رہی اور پردہ غیب سے اس نے یہ آواز سنی کہ پہلے یہ سیاہ پانی اپنی آنکھ سے دور کرو اور بینائی کا سفید پانی اس کی جگہ لے آؤ پھر زمین سے کنواں یا چشمہ کھود کر پانی نکالنا (عزیزی) نماز کے

① شاعر نے اسی معنی میں کہا ہے۔

لاکھ چاہا کہ کروں ضبط ، نہ ردوں لیکن  
چشمہ چشم سے آہی گئے آنسو باہر

دوران آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے اور خیردار کیا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو خطرہ ہے کہ کہیں تمہاری بینائی ضائع نہ کر دی جائے (بخاری و مسلم) اللہ کی لالچی بے آواز ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور آنکھوں کو اسی جگہ استعمال کرنا چاہئے جہاں اس کی اجازت ہے۔

## آنکھ کا شکر

آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ امام بکر بن عبد اللہ مزنی فرمایا کرتے تھے کہ اے دم کے بیٹے! اگر تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو خود بخود اللہ کے انعامات کا علم ہو جائے گا۔ ہر نعمت پر شکر لازم ہے اور یہ شکر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ ہر عضو اپنے دائرے میں شکر کا مقتضی ہے۔ امام ابو حازم سلمہ بن دینار فرماتے ہیں آنکھوں کا شکر یہ ہے:

”إِنْ رَأَيْتَ بِهِمَا خَيْرًا اَعْلَنْتَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ بِهِمَا شَرًّا سَتَرْتَهُ“

(تہذیب ابن عساکر ص ۲۸۸ ج ۶، کتاب الشکر لابن ابی النعیا ص ۲۰)

اگر تو ان سے کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور اگر بری چیز دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔

## بصارت چلے جانے کا بدلہ

بینائی جتنی عظیم نعمت ہے اس کے ختم ہونے پر اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے جس مومن بندے کو آنکھوں سے محروم کر کے اسے آزمائش میں مبتلا کر دوں اور وہ اس پر صبر کرے تو ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں ہے کہ ”لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةُ“ کہ ”میرے پاس اس کے لئے اس کی جزاء جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔“ مسند امام احمدؓ میں حضرت عائشہ بنت قدامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ

اپنے مومن بندے کی بصارت ضائع کر دے پھر اسے جہنم میں دھکیل دے۔ یہ اجر و ثواب اسی صورت میں ہے جب اس پریشانی پر صبر کرے۔ صحیح ابن حبان میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”اِذْ هُوَ حَمْدِنِي عَلَيْهَا“ کہ جب وہ اس پر بھی میری تعریف یعنی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کرتا رہے۔ لیکن اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناراضی اور شکوے کا اظہار کرے، اطاعت و فرمانبرداری کی بجائے معصیت و نافرمانی کا مرتکب ہو جائے تو پھر دنیا و آخرت میں سوائے خسارہ اور نقصان کے اور کچھ بھی نہیں پائے گا۔ (اعاذنا الله منه)

## بصیرت سے محرومین کا انجام

وہ بدنصیب جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور آنکھ سے متعلقہ ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہوتے۔ مظاہر قدرت کو دیکھ کر بھی ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں، قیامت کے روز جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے گی۔

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝ الَّذِينَ كَانَتْ  
اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾  
(الکھف: ۱۰۰، ۱۰۱)

”کہ جس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میرے ذکر سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لئے تیار ہی نہ تھے“

اس وقت یاس اور شرمندگی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی، دنیا میں تکبر و غرور سے سر بلند کرنے والے اس وقت مجرموں کے طرح سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے:

﴿رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾  
(السجدة: ۱۲)

”اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا آپ ہمیں واپس بھیج

دیکھتے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اب یقین آ گیا ہے“  
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (مریم: ۳۸)

”اس دن جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے ان کے کان خوب سن رہے ہوں گے اور ان کے آنکھیں خوب دیکھتی ہوں گی مگر یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں“

آج جب اس دنیا میں آنکھ اور کان سے وہ کام نہیں لیتے جو انہیں لینے چاہئیں تو اس جرم کی پاداش میں جب جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے تو حسرت اور افسوس سے کہیں گے:

﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِى أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (الملك: ۱۰)

کاش! ہم سنتے یا سمجھتے (یعنی قدرت الہی کی نشانیاں دیکھ کر بصیرت حاصل کر لیتے) تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے (اعاذنا اللہ منھا)

## آنکھ افضل یا کان؟

اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کان افضل ہے یا آنکھ۔ امام محمد بن قاسم بن بشر ابن الانباری المتوفی ۳۲۸ھ اور احناف کا خیال ہے کہ آنکھ افضل ہے مگر شوافع اور عبد اللہ بن مسلم بن قتیبة دینوری المتوفی ۲۷۶ھ کہتے ہیں کان افضل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝﴾ (یونس: ۴۲، ۴۳)

”یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوجھتا ہو“

ان آیات میں قوتِ سماع کے ضائع ہونے سے عقل کے چلے جانے کا ذکر ہے مگر نظر کے جانے سے صرف بینائی کے جانے کا ذکر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ کان افضل ہیں۔ لیکن امام ابن الانباری فرماتے ہیں کہ یہ استدلال درست نہیں۔ کان آنکھ سے افضل کیونکر ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آنکھ کی بدولت انسان باسانی چلتا پھرتا ہے۔ منزل کو باسانی پالیتا ہے اور ہلاکت و بربادی کی جگہ سے باسانی بچ نکلتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی اور رونق اسی سے ہے۔ اور حدیث میں آنکھ ہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس کی میں (اللہ عزوجل) دونوں آنکھوں کی بینائی ختم کر دوں وہ اس پر صبر کرے تو اس کی جزا جنت ہے۔ یہ بشارت قوتِ سماعت چلے جانے پر قطعاً نہیں جو اس کی دلیل ہے کہ آنکھ افضل ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ ابن قتیہ نے جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ استدلال بھی درست نہیں کیونکہ نظر کے جانے سے صرف بینائی کے چلے جانے کا ہی ذکر نہیں بلکہ ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ سے مراد بصارتِ قلبی سے محرومی ہے۔ جیسے سماعت کے فقدان سے ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ بے وقوفی کا ذکر ہے۔ (ویسے بھی سر کی آنکھیں کھلی ہونے سے چنداں فائدہ نہیں ہوتا جانور بھی تو آنکھ سے دیکھتا ہے اصل دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا یعنی بصیرت مراد ہے اسی لئے نَفْيُ يَنْظُرُونَ کی نہیں ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ کی ہے پھر اس آیت میں اگر کانوں کا ذکر پہلے ہے تو اس سے بھی ان کا افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ایک دوسرے مقام میں آنکھوں کا ذکر پہلے ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾

(ہود: ۲۴)

”ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اندھا بہرا ہو اور

دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟“



کانوں کو افضل قرار دینے والے حضرات کا کہنا ہے کہ دنیا و آخرت کی سعادت ایمان و اطاعت پر موقوف ہے اور یہ کانوں ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا کلام کانوں ہی سے سنا جا سکتا ہے۔ اور کان سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں ان کا دائرہ وسیع تر ہے آنکھ سے صرف موجودات کا علم ہوتا ہے جبکہ کان سے موجود و معدوم، حاضر و غائب اور قریب و بعید کا ادراک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کفار کا قرآن نہ سننے کی مذمت زیادہ بیان ہوئی ہے جبکہ عدم بصر کی مذمت عقل و سمع کے بالتبع ہے۔ سماعت نہ ہو تو انسان گونگا ہوتا ہے مگر نابینا ہو تو بصیرت میں بسا اوقات اضافہ ہو جاتا ہے اور نابینا حضرات علم و فضل میں بلند مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں مگر عموماً بہروں کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا نابینا علماء تو بکثرت ہوئے ہیں<sup>①</sup> لیکن بہرے نہ ہونے کے برابر، بلکہ صحابہ میں سے تو کوئی بھی بہرا نہ تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کان افضل ہیں۔ اس کے برعکس آنکھ کو افضل قرار دینے والے حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنت میں اہل جنت کو حاصل ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ شرف آنکھ کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ضرب المثل ہے کہ ”شہیدہ کے بود ماند دیدہ“ کیونکہ سننے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے جبکہ دیکھنے اور مشاہدہ کرنے میں غلطی کا امکان انتہائی کم ہوتا ہے۔ بلکہ علم کے مراتب ثلاثہ: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین میں پہلا درجہ کان سے متعلق ہے اور دوسرا آنکھ۔ تبھی اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مُردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں ایمان و یقین تھا۔ مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ﴿رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ نُحْيِي الْمَوْتِي﴾ کہ ”اے میرے رب مجھے دکھا کہ آپ مُردوں کو کیونکر زندہ کریں گے؟“ علم کے اس اعلیٰ مرتبہ کا تعلق آنکھ سے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آنکھ افضل ہے آنکھ دل کا آئینہ ہے۔ آنکھ سے دل کے تاثرات یعنی کسی سے محبت اور بغض، دوستی اور عداوت، خوشی اور غمی کے آثار نمودار ہوتے ہیں جس سے انسان دوسرے

① کتب تاریخ و رجال میں نابینا علماء کی ایک طویل فہرست ہے، مولانا حبیب الرحمن شروانی مرحوم کا اس سلسلے میں ایک مستقل رسالہ ”علماء سلف اور نابینا علماء“ قابل دید ہے۔

انسان کے قلبی تاثرات کو بھانپ سکتا ہے۔ مگر کان کا اس اعتبار سے دل سے کوئی علاقہ نہیں۔ وہ صرف دل تک بات پہنچانے کی ذمہ داری ہی ادا کرتے ہیں۔ آنکھ سے کسی چیز کا ادراک مکمل اور اکمل ہوتا ہے۔ نیز اس کا مقام اور محل بھی کان کی نسبت زیادہ خوبصورت اور عجائبات کا حامل ہے۔ حافظ ابن قیمؒ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ دونوں کو ایک اعتبار سے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے کانوں کو عمومیت کے اعتبار سے مزیت حاصل ہے جبکہ آنکھ کو کامل اور اکمل ادراک ہونے کے ناطے سے افضلیت حاصل ہے۔ (بدائع الفوائد: ج ۳ ص ۷۰، ۷۱، ج ۱ ص ۱۶۲، ۱۶۵) حافظ ابن قیمؒ نے تقریباً یہی کچھ (مفتاح دار السعادة: ج ۱ ص ۱۱۰-۱۱۲) میں فرمایا ہے۔ البتہ وہاں کان کو افضل قرار دینے والوں میں امام ابوالمعالی وغیرہ کا اور آنکھ افضل قرار دینے والوں میں امام ابن قتیبہ کا نام لیا ہے۔ واللہ اعلم۔

بلاشبہ کان اور آنکھ کو بعض وجوہ کی بنا پر ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے مگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو آنکھ افضل ہے اس کا دائرہ کار وسیع اور ادراک کامل و مکمل ہوتا ہے۔ یہ حصول کا ذریعہ ہی نہیں حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ آنکھ کو عربی زبان میں ”عین“ کہا گیا ہے علامہ راغب فرماتے ہیں کہ ”عین“ بمعنی سونا بھی آیا ہے کیونکہ یہ جواہرات میں افضل سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اعضا میں آنکھ سب سے افضل ہے اور اسی سے افاضل قوم کو ”اعیان“ کہا جاتا ہے۔ اور ماں باپ دونوں کی طرف سے حقیقی بھائیوں کو ”اعیان الاخوة“ یعنی بھائی کہا جاتا ہے (مفردات القرآن) ظاہر ہے کہ اولاد میں سب سے افضل عینی بھائی بہن ہی ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہی دل و جان کی راحت کا سبب بنتی ہے۔ اور جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے انسان اس کے حصول کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ حافظ ابن قیمؒ کا بھی یہی رجحان معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ بنی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے بارے میں فرمایا ہے ”هذان السمع والبصر“ کہ یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں آپ کے اس فرمان میں چار

احتمال ہیں:

اول: دونوں حضرات میرے سمع و بصر کی حیثیت سے ہیں۔  
دوم: دین اسلام میں ان کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں کان اور آنکھ کی ہوتی ہے۔  
یوں رسول اللہ ﷺ بمنزلہ دل اور روح کے ہیں اور ابو بکر و عمرؓ بمنزلہ سمع و بصر کے۔

سوم: یہ تشبیہ دونوں کو حاصل ہے یعنی دونوں بمنزلہ سمع و بصر ہیں۔  
چہارم: یا یہ مراد ہے کہ ایک بمنزلہ کان ہے اور دوسرا بمنزلہ آنکھ ہے۔ اہل علم میں اختلاف ہے کہ دونوں میں کون بمنزلہ کان اور کون بمنزلہ آنکھ ہے۔ اور حضرت صدیقؓ جس صفت سے متصف ہوں گے وہی افضل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ”والتحقیق ان صفة البصر للصدیق“ تحقیقی بات یہ ہے کہ صفت بصر حضرت صدیقؓ کے لئے ہے۔“ اور صفت سمع حضرت عمرؓ کے حق میں ہے کیونکہ حضرت عمرؓ محدث و ملہم ہیں یعنی ان کے دل میں کسی چیز کے صحیح اور درست ہونے کا الہام ہوتا ہے۔ اور اس کا تعلق باطنی سماعت سے ہے مگر صدیق کو مقام صدیقیت کمال بصیرت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے اور رسول اللہ ﷺ جس کی خبر دیتے ہیں وہ گویا اسے پردے کے پیچھے سے اپنی بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کرامت ہے اور نبوت کے بعد اس کا مرتبہ و مقام ہے (بدائع الفوائد: ج ۱ ص ۷۲، ۷۳) جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنکھ، کان سے افضل ہے بلکہ باقی ظاہری اعضاء و جوارح سے بھی افضل ہے۔

## نماز نیکی کا منبع ہے

اسلام میں سب سے پہلا اہم ترین حکم نماز ہے جو عبادت و اطاعت کا کامل و مکمل مظہر ہے۔ ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی اور تمام سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے جس میں نظم و ضبط اور پابندی وقت کا سبق ہے۔ آپس میں الفت کا باعث ہے

کائنات کی فطرت کا اظہار ہے یہ طالب کا پہلا سبق ہے تو سالک کی آخری منزل ہے۔ آنحضرت ﷺ نے نماز کو ”نور“ فرمایا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے اطمینان و سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ نماز ہی تمام پریشانیوں سے نجات دینے والی اور تمام مشکلوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ نماز سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو عرض ہے کہ یہ بتلائیے کہ اس سے کیا حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری نمازوں کا حال تو بقول شاعر مشرق یہ ہے کہ ۷

جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا

تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں

پوری تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ یہی دیکھئے کہ نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ

نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”کہ بے شک نماز برائیوں اور منکرات سے بچاتی ہے“

گویا نماز نفس امارہ کو شہوات و خواہشات کی چراگاہ سے بچانے کے لئے ایک لگام کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب یہ لگام ہی نہیں تو نفس کو روکنے والی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں نماز کو تمام انبیاء کرام کا عمل ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ (مریم: ۵۹)

”پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز میں ترک کر دیں اور

شہوتوں کے پیچھے لگ گئے۔ پس عنقریب وہ جہنم کی وادی کو دیکھ لیں گے“

غور فرمائیے یہاں نماز میں ضائع کردینے کا لازمی نتیجہ شہوات کی پیروی قرار دیا ہے اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کی بد نصیب قوم نے کہا تھا:

﴿يَشْعِبُ أَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ

نَفْعَلُ فِي أُمُورِنَا مَا نَشَاءُ ﴿٨٤﴾ (ہود ۸۷)

”اے شعیب! تیری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے یا چھوڑ دیں جو کچھ ہم اپنے مالوں میں کرتے ہیں“

نتیجہ یہاں بھی وہی ہے کہ نماز شرک کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک سچا اور صحیح نمازی شرک کی پگڈنڈیوں میں مارا مارا نہیں پھرتا اور نہ ہی اپنے معاملات میں آزاد اور خواہش پرست ہوتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ہماری بے روح نماز مراد نہیں بلکہ وہ نماز ہے جو الفت و محبت کے جذبہ سے ادا کی جائے اور اسکے تمام لوازمات و واجبات کو نماز ہی کی حد تک محدود نہ سمجھا جائے بلکہ دوسرے اوقات و لمحات میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے تو بلاشبہ نماز سے بڑھ کر انسان کو برائیوں سے روکنے والا اور کوئی عمل نہیں۔ پوری تفصیل سے قطع نظر یہی دیکھئے کہ

## آنکھ اور نماز

نمازی کو حکم ہے کہ نماز میں اپنی نگاہ نیچی رکھے حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ“ (بخاری و مسلم)

”لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نماز میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں بڑی سخت بات فرمائی یہاں تک فرمایا کہ وہ اس سے باز آجائیں ورنہ ان کی آنکھیں اندھی کر دی جائیں گی“ خود آپ کا معمول یہ تھا کہ

”كَانَ إِذَا صَلَّى طَاطَأَ رَأْسَهُ وَرَمَى بَبْصَرِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ“

”آپ جب نماز پڑھتے تو سر نیچا کر لیتے اور اپنی نگاہ زمین کی طرف مگر کر دیتے“ (حاکم، بیہقی)

آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ کی کیفیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان فرماتی ہیں:

مَا خَلَفَ بَصْرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ (حاکم، بیہقی)

”آپ کی نگاہ سجدہ کی جگہ سے نہیں پھری تا آنکہ آپ باہر نکل آئے“

فرض نماز میں تو آپ نے گوشہ چشم سے ادھر ادھر التفات یعنی جھانکنے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ أَنْصَرَفَ عَنْهُ“ (ابو داؤد، ابن خزيمة، ابن حبان)

”جب تک نمازی ادھر ادھر نہیں جھانکتا اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جب وہ التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس سے پھیر لیتے ہیں“

بلکہ آپ ﷺ نے صاف طور پر فرمایا:

”إِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدِهِ فِي

صَلْوَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ“ (الترمذی، حاکم)

”جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت جھانکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توجہ

اپنے بندے کی طرف اس وقت تک کئے رکھتے ہیں جب تک وہ ادھر ادھر

نہیں جھانکتا“

”التفات“ یعنی گوشہ چشم سے ادھر ادھر جھانکنے کو آپ نے ”اختلاس شیطان“

اور ”التفات ثعلب“ (کہ یہ شیطان کا جھپٹنا اور لومڑی کا جھانکنا ہے) سے تشبیہ دیکر

نفرت کا اظہار فرمایا (احمد، ابویعلیٰ) شہد کی حالت میں بھی آپ ﷺ کا اسوہ حسنہ یہ تھا

کہ آپ ﷺ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ توحید کرتے اور آپ ﷺ کی

نگاہ اشارہ سے تجاوز نہ کرتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ

”لَا يُجَاوِزُ بَصْرُهُ إِشَارَتَهُ“ (ابو داؤد، نسائی، احمد، بیہقی)

”کہ آپ کی نگاہ اشارہ سے تجاوز نہیں کرتی تھی“

البتہ تعلیم نماز کے لئے مقتدی کا امام کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ یہ بجائے خود نماز

سے متعلق ہے کہ امام کب اور کیسے رکوع و سجدہ کر رہا ہے۔

## نماز اور معراج

سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم نبی کریم ﷺ کو معراج کے موقع پر دیا۔ اسی دوران میں جب آپ کو اللہ ذوالجلال والا کرام کا قرب نصیب ہوا تو آپ کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مَسَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنِيَ﴾ (النجم: ۷۱) ”کہ نہ آپ کی نگاہ چندھیائی اور نہ حد سے تجاوز ہوئی“، یعنی آپ ﷺ کی یکسوئی اور انہماک کا یہ عالم تھا کہ جس مقصد کے لئے بلا یا گیا اسی پر آپ ﷺ کا ذہن اور آپ ﷺ کی نگاہ مرکوز رہی اور وہاں جو حیرت انگیز تجلیات اور قدرت الہی کے مناظر تھے ان کو دیکھنے کے لئے آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانی شروع نہیں کر دیں۔ آداب شاہی سے نا آشنا تو دربار کی حج و حج کی طرف بار بار دیکھے گا اور اپنی توجہ کا اسے مرکز بنائے گا۔ مگر ایک فرض شناس اور آداب آشنا دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول نہیں ہوگا بلکہ اپنی ساری توجہ اسی مقصد پر مرکوز رکھے گا جس کے لئے وہ دربار میں بلا یا گیا ہے۔ یہ تھی کیفیت معراج کے دوران رسول اللہ ﷺ کی۔ نماز بھی مومن کے لئے معراج اور رب ذوالجلال کے قرب کا ذریعہ ہے اس لیے اس ادب کو نماز میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اوپر آسمان کی طرف یادائیں بائیں دیکھنے بلکہ گوشہ چشم سے التفات کرنے سے بھی منع فرمایا تاکہ نمازی کی تمام تر توجہ نماز میں اللہ ذوالجلال والا کرام کی طرف رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت پاسکے اور ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا تَكُ تَرَاهُ“ ”کہ یوں اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو“ (بخاری و مسلم) یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نماز سے توجہ زائل کر دینے کا سبب ہو سکتی ہے

آپ نے اسے ختم کرنے کا حکم فرمایا۔ بول و براز کی حاجت ہے تو فرمایا نماز سے پہلے اس سے فارغ ہولو۔ بھوک ستار ہی ہے تو حکم دیا پہلے کھانا کھا لو۔ نمازی کے سامنے کوئی چیز توجہ بدلنے کا باعث ہے تو اسے ہٹا دینے کا حکم فرمایا۔ نیند یا اونگھ کا غلبہ ہے تو فرمایا پہلے تھوڑا سا آرام کر لو۔ صرف اس لئے کہ نماز اطمینان و سکون اور پوری توجہ سے ادا کی جاسکے اور نمازی اپنے رب کا قرب حاصل کر سکے۔

غور کیجئے کہ نماز جو بے حیائی اور منکرات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس میں نگاہ کو محفوظ رکھنے اور ادھر ادھر جھانکنے سے کس طرح روکا گیا ہے۔ جو نمازی اس کا اہتمام نماز میں کرے گا نماز سے باہر بھی بلا ضرورت آنکھوں کے نظارہ سے ان شاء اللہ محفوظ رہے گا مگر جو کوئی چند لمحات اپنی آنکھ پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ وہ بے چارہ باقی اوقات میں اسے محفوظ کیونکر رکھ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اصلاح اور تربیت کے لئے نماز میں بہت کچھ رکھا ہے۔ ہم ہی اس کا پاس و احساس نہ کریں تو قصور ہمارا ہے نماز کا نہیں۔

## نظر کی حفاظت

بے حیائی اور منکرات کے ارتکاب اور اس کے محرکات کا ایک بڑا سبب چونکہ یہی آنکھ ہے اس لئے آنکھ کی حفاظت اور اسے نیچا رکھنے کا جو حکم نماز میں عبادت تھا نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی اس کی حفاظت کا حکم فرمایا چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوْا

فُرُوْجَهُمْ﴾ (النور: ۳۰)

”مومنوں سے کہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی

حفاظت کریں“

شرمگاہ کی حفاظت کے حکم سے پہلے آنکھوں کو بچا کر رکھنے کا حکم اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ بدکاری اور بے حیائی کا بنیادی سبب یہی آنکھ بنتی ہے۔ یہ اگر محفوظ رہے گی تو حتی الامکان انسان شرمگاہ کے گناہ سے بھی بچا رہے گا۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ



نے مومنہ عورتوں کو بھی دیا چنانچہ فرمایا:

﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

(النور: ۳۱)

”ایماندار عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی

شرمگاہوں کی حفاظت کریں“

”غض بصر“ یعنی آنکھوں کو نیچا رکھنے کے یہ معنی قطعاً نہیں کہ راہ چلتے انسان اپنی آنکھوں کو یوں نیچا رکھے کہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے احوال سے بالکل لاتعلق ہو جائے یوں تو ایک سیڈنٹ اور باہم ٹکراؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ان کو مت دیکھے اور ان سے اپنی آنکھیں نیچی کر لے قرآن مجید میں ﴿مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ میں ”من“ تبعیضیہ ہے یعنی ہر نظر مراد نہیں بلکہ بعض وہ نظریں ہیں جو حرام اور بے فائدہ ہیں۔ اور جن کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہے اجنبی اور غیر محرم کو دیکھنا جو کہ فساد کی اصل جڑ ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکیمانہ انداز ہے کہ برائی کے خاتمہ کے لئے اس کے اسباب و عوامل کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ شراب سے منع فرمایا تو اوائل میں ان برتنوں کے استعمال سے بھی روک دیا گیا جن میں یہ تیار کی جاتی تھی۔ قتل ناحق ہی سے نہیں روکا بلکہ قتل پر اعانت، اشارہ قتل، سرعام ننگی تلواروں اور اسلحہ کی نمائش کی بھی سختی سے ممانعت فرمائی۔ اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑا اور قطع تعلق ہی سے منع نہیں فرمایا بلکہ گالی گلوچ دینے، طعن و ملامت کرنے، تباہی بالالاقاب، بغض و حسد و عناد اور غیظ و غضب سے بھی روک دیا جو عموماً لڑائی جھگڑے اور اختلاف کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح زنا اور بدکاری سے ہی منع نہیں فرمایا بلکہ غیر محرم کو دیکھنے، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنے سفر کرنے، نرم لہجے میں بات چیت کرنے، بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنے منک کر چلنے سے بھی منع فرمایا تاکہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری۔

اسی طرح بدکاری سے بچنے کا ایک طریقہ یہی آنکھوں کو نیچا رکھنے کا ہے جس کا

اس آیت میں حکم ہے۔ آنکھ دل کا آئینہ ہے جب آئینہ الٹا کر دیا جائے گا تو دل غیر محرم کے عکس اور تصور سے محفوظ رہے گا۔

## غیر محرم کو دیکھنے کی ممانعت

حضرت فضل بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے دوران میں منیٰ آتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے پیچھے سواری پر تھا کہ راستے میں ایک دیہاتی کو دیکھا جو اپنے ساتھ اپنی خوبصورت بیٹی کو لیکر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپؐ اس سے نکاح کر لیں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو آپؐ نے میرا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ (ابویعلیٰ وغیرہ) نتیجہ بالکل واضح ہے اگر غیر محرم کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو آپؐ فضل بن عباسؓ کو اس لڑکی کی طرف دیکھنے سے عملاً منع نہ فرماتے۔ اسی طرح حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الزَّيْنِ فَهُوَ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخَطْيُ وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ“

(بخاری، ابو داؤد، نسائی)

”آدم کے بیٹے پر اس کے زنا کا حصہ لکھا گیا ہے جسے وہ لامحالہ پہنچے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا سننا ہے۔ زبان کا زنا کلام کرنا ہے۔ ہاتھ کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل آرزو اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔“

بدکاری کے ارتکاب میں یہ سارے اعضا حصہ دار بنتے ہیں اس لئے زنا کی نسبت ان کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اور انہی میں سرفہرست آنکھ ہے۔ جس سے غیر محرم کو دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لَكَ الْآخِرَةَ“ (ترمذی، احمد)

”اے علی! ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوسری بار مت دیکھو کیونکہ

تمہارے لئے پہلے نظر معاف ہے دوسری نہیں“

جس سے معلوم ہوا کہ راہ چلتے اچانک کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو دوسری بار

اس کی طرف دیکھنا روا نہیں چہ جائے کہ کسی لگا کر دیکھتا رہے۔ (اعاذنا اللہ منہ)

پہلی بار اچانک نظر پڑ جائے تو بھی فوراً نگاہ پھیر لینی چاہیے یوں نہیں کہ انسان

خواہش نفس کا شکار ہو کر رہ جائے، چنانچہ حضرت جریرؓ فرماتے ہیں کہ:

”سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ: إِصْرَفْ

بَصْرَكَ“ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں

سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔“

اس لئے چاہیے کہ جب کبھی نظر اچانک کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو اس کی طرف

سے فی الفور نگاہ پھیر لے۔ پہلی نظر تو معاف ہے اس کے بعد لذتِ نظر کے لئے یہ حرکت

گناہ اور قابلِ گرفت ہے۔

غیر محرم بالغہ عورت کو دیکھنا تو کجا امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ جو ابھی کم سن ہیں

اور انہیں حیض نہیں آیا اگر ان کی طرف دیکھنے کو دل چاہے تو انہیں بھی دیکھنے سے اجتناب

کیا جائے۔ اسی طرح امام عطاء بن ابی رباحؒ فرماتے ہیں کہ وہ لونڈیاں جو مکہ مکرمہ میں

فروخت ہونے کے لئے لائی جاتی ہیں ان کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو انہیں دیکھنا بھی حرام

ہے (بخاری مع الفتح: ص ۷ ج ۱۱) جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے اسلاف رحمہم

اللہ اس مسئلے میں کس قدر محتاط تھے۔ مگر آج ہم کتنے بے حجاب ثابت ہوئے ہیں۔ امام

العلاء بن زید بصریؒ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے نہایت عابد اور زاہد تھے حافظ ذہبیؒ نے

انہیں ”كَانَ رِبَانِيًّا تَقِيًّا قَانِتًا لِلَّهِ بَكَاءً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ کے القاب سے یاد کیا ہے۔

(السير: ص ۲۰۲ ج ۴) امام عبد اللہ بن احمد نے انہی کا قول ذکر کیا ہے۔

”لَا تَتَّبِعْ بَصْرَكَ رِذَاءَ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ“ (كتاب الزهد: ص ۲۵۵، الحلیۃ: ص ۲۲۳ ج ۲ وغیرہ)

”اپنی نگاہ عورت کی چادر پر مت ڈالو کیونکہ یہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔“

زمانہ خیر القرون میں نہ بے حجابی کا دور دورہ تھا نہ ہی زیب وزینت کی نمائش کا رجحان تھا مگر اس کے باوجود امام العلاء کا فرمان باعث عبرت ہے مگر آج کے پرفتن دور میں جبکہ عریانی و فحاشی پورے عروج پر ہے ان حالات میں عورتوں کا زرق برق لباس پہن کر گھر سے باہر آنا مردوں کا ان کی طرف دیکھنا جس قدر برے انجام کا سبب بنا ہوا ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ جس سے شیخ علاء کے قول کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔

بعض حضرات بڑی بے تکلفی سے کہتے ہیں کہ اصل معاملہ دل کا ہے آنکھ کا نہیں، دل صاف ہونا چاہئے یوں وہ بڑی ہوشیاری سے اپنی پارسائی کا اظہار کرتے ہیں مگر یہ محض شیطانی جھانسنہ ہے۔ شیخ الطائفہ حضرت عبدالقادر جیلانیؒ نے ایسے ہی کٹ جت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم فرمایا ہے اور اسی کو ان کے لئے زیادہ پاکیزگی اور صفائی کا باعث قرار دیا ہے مگر اس کے برعکس جو یہ کہتا ہے کہ نظر پاک صاف ہے تو وہ قرآن پاک کی تکذیب کرتا ہے (غنیۃ الطالبین: ص ۳۶ ج ۱) اس لئے یہ محض شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو لذت نظر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔

## غض بصر اور عیسائی مذہب

یہاں اس بات کا تذکرہ یقیناً فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ غض بصر کا یہ حکم اسلام ہی میں نہیں عیسائیت میں بھی اس کا ذکر ہے بلکہ اپنے مخصوص راہبانہ انداز میں بڑی سختی سے اس آنکھ کو نکال کر پھینک دینے کا حکم ہے جو غیر محرم کی طرف دیکھتی ہے چنانچہ انجیل میں ہے۔

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنانہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے‘ (متی: ۵، آیت ۲۷-۲۹)

قارئین کرام! غور فرمائیں انجیل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مگر صد افسوس کہ آج مستشرقین اور مغربی لٹیرین اس بارے میں اسلام کی تعظیمات پر اعتراض کرتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرنا، غیر محرم سے پردہ کرنا۔ جو زنا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انہیں ایک نظر نہیں بھاتا۔ مگر نہیں دیکھتے کہ عیسائیت میں تو زنا سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے کہ بری نگاہ سے عورت کو دیکھا تو آنکھ بن نکال دینی چاہئے۔ اور آئندہ ان شاء اللہ آپ اپنے مقام پر دیکھیں گے کہ عیسائی مذہب میں اس پر عمل بھی رہا ہے۔ انجیل کا یہ حکم زاہدانہ و راہبانہ روش کے مطابق تو ہو سکتا ہے مگر انسانی معاشرے میں یہ ناممکن العمل ہے اس لیے دائمی شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ عین انسانی فطرت کے مطابق اور قابل عمل ہے۔ کہ عورت اپنے چہرے کو بالغ مردوں سے چھپائے اور مرد عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ عورت جو فطرتاً پرکشش اور جاذب نظر ہے اسے دیکھنے سے برے خیالات پیدا نہ ہوں اور اس سے پیدا ہونے والے فتنہ و فساد کا سدباب ہو سکے۔

## سر راہ بیٹھنا منع ہے

یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جو بڑی سرعت سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے بچپن گزر گیا۔ جوانی گئی تو بہار گئی بڑھا پایا یا پیام اجل آ گیا۔ اور جب یہ اجل مسلماً آئے گی تو اس سے کسی کو مفر نہیں ہوگا۔ تب آنکھیں کھلیں گی مگر اب وقت گزر چکا۔ اسلام مسلمان کو زندگی کے انہی لمحات کو پہچاننے کی تلقین کرتا ہے۔ بے مقصد عمل اور فضول گپ شپ کی مجلسوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سر راہ اور چوراہوں پر بیٹھنے سے بھی منع کرتا ہے البتہ ناگزیر حالت میں چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ  
 أَيْبْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا مَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَ  
 الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (بخاری، مسلم)

”کہ چوراہوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، صحابہ کرام نے عرض کیا اے  
 اللہ کے رسول ﷺ! بعض ہماری مجلسیں لادبی ہوتی ہیں جس میں ہمیں  
 باتیں کرنا ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر یہ مجلس ناگزیر ہو تو راستے میں  
 بیٹھنے کا حق ادا کیا کرو، انہوں نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے  
 فرمایا نگاہ نیچی رکھو کسی کو تکلیف مت دو، کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دو،  
 نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو“

اسی طرح حضرت زید بن سہل فرماتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ رسول  
 اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا تم یہاں راستے میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کی ہم  
 کسی برے ارادے سے نہیں بیٹھے۔ بس چند باتیں کرنے کے لئے ہم یہاں بیٹھ گئے تھے،  
 آپ نے فرمایا:

”أَمَّا الْبَدُّ فَأَذُوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصْرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ

الْكَلَامِ“ (مسلم)

”اگر اس کے بغیر چارہ نہیں تو اس کا حق ادا کرو اور وہ یہ کہ نگاہ نیچی رکھو،

سلام کا جواب دو اور اچھی بات کرو“

یعنی سر راہ بیٹھنا ہے تو سلامتی کا پیغام بن کر بیٹھو۔ سلام کا جواب دو، تمہارے  
 سامنے بیہودگی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اس سے روکو۔ اچھی باتوں کا حکم دو کسی کی ایذا رسانی  
 کا باعث نہ بنو۔ باتیں کرنا نہیں تو اچھی کرو۔ بری باتوں سے اجتناب کرو۔ اور آنکھیں نیچی  
 رکھو۔ گویا اسلام سر راہ بیٹھ کر راہ چلنے والی عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا انہیں دیکھ کر  
 آوازیں کسنے نقلیں اتارنے اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مگر وائے

افسوس کہ آج بازار میں جو حشر راہ چلنے والی عورتوں بلکہ حصول تعلیم کے لئے سکول جاتی معصوم بچیوں کا ہوتا ہے پناہ بخدا! شریف والدین اسی مصیبت سے بچنے کے لئے اپنی بچیوں کو گھر بٹھالیتے ہیں۔ اور یوں وہ بچاری زیور تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔

## غض بصر کا اجر

نظر بازی کا دل پر اثر تیر سے کم تر نہیں ہوتا۔ اس سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ عزت و عصمت خاک میں مل جاتی ہے۔ اخلاق حسنہ کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ معاشرے کو برباد کرنے میں اس کا وہی کردار ہے جو خشک گھاس کو دیاسلانی دکھانے سے رونما ہوتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے غض بصر کی تاکید فرمائی اور نظر کی حفاظت کرنے والے کو بشارت دی چنانچہ حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”اَكْفَلُوا لِي سِتًّا اَكْفَلُ لَكُمْ الْجَنَّةَ اِذَا حَدَّثَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبُ وَاِذَا اَوْثَمِنَ فَلَا يَخُنْ وَاِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ وَاِذَا اَبْصَرَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ وَاَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ“

(ابن کثیر: ص ۲۸۲ ج ۳)

”تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ جب کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ جب امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے۔ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو“

یہی روایت مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان میں حضرت عبادۃ بن صامتؓ سے بھی مروی ہے۔ غض بصر کے حافظ ابن قیم نے متعدد دفنوں میں ذکر کئے ہیں ہم یہاں اس کا خلاصہ جزوی ترمیم کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

۱۔ غض بصر سے انسان کا دل ”حسرت و یاس“ کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اسے اکثر و بیشتر سوائے حسرت کے اور کچھ

حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ایسی چیز کو دیکھتا ہے جسے وہ حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے بغیر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ کرب و الم کی اس کیفیت سے محفوظ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی نظر نیچی رکھے۔

۲۔ غصہ بصر سے دل میں نور اور عبادت میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سورۃ النور میں ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية کہ ”اللہ کا نور آسمانوں اور زمین پر ہے“ سے پہلے یہ حکم دیا کہ ایمانداروں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ غصہ بصر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جس کی تائید حضرت ابوامامہؓ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ أَوْ لَمَرَّةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَتْ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَا وَتَهَا“

(احمد، طبرانی، بیہقی)

”کہ جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا کر دیتا ہے“

اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ

”الْنَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبَدْتُ لَهَا إِيمَانًا يَجِدُ حَلَا وَتَهَا فِي قَلْبِهِ (حاکم، طبرانی) ①

”کہ نظر بازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو مجھ سے ڈرتا ہوا اسے چھوڑ دے گا میں اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کر دوں گا۔“

① یہ دونوں روایتیں سند اکمز اور ضعیف ہیں مگر ایسی روایات کا ترغیب و ترہیب میں بیان درست ہے۔



اس حقیقت کا آج بھی تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ بھلا جو دل یوں نظر بازی سے صنم کدہ بنا ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز کیونکر بن سکتا ہے۔

۳۔ محرمات سے غضب بصر میں نور بصیرت پیدا ہوتا ہے۔ جس کی بدولت صحیح فراست کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ شیخ شجاع الکرمانی فرماتے ہیں۔

”من عمر ظاہره باتباع السنة و باطنه بدوام المراقبة و غضب بصره عن المحارم و كف نفسه عن الشهوات و اكل من الحلال لم تخطى فراسته“

”کہ جو اپنے ظاہر سے سنت کی تابعداری کرتا ہے اور باطن میں مراقبہ کا اہتمام کرتا ہے محرمات سے نگاہ بچا کر رکھتا ہے۔ نفس کو شہوات سے روکتا اور حلال کھاتا ہے اس کی فراست کبھی غلط نہیں ہوتی۔“

گویا غضب بصر کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو نور بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ شیخ ابوالحسن الوراق فرماتے ہیں:

”من غضب بصره عن محرم اورثه الله بذك حكمة على لسانه يهدى بها سامعوه و من غضب بصره عن شبهة نور الله قلبه بنور يهدى به الى طريق مرضاته. (ذم الهوى: ص ۷۱۷)

”یعنی جو کوئی اپنی نگاہ کو محرمات سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت و دانائی کی باتیں جاری کر دیتے ہیں جس سے سننے والے ہدایت پاتے ہیں اور جو کوئی مشتبہات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے دل کو نور سے منور کر دیتے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے راستے معلوم کر لیتا ہے۔“

۴۔ دل کے اسی نور سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علم نور ہے دل بھی نور سے منور ہو تو اس کا حصول آسان تر ہو جاتا ہے اور اشیاء کی حقیقتیں منکشف ہونے لگتی ہیں۔

۵۔ غض بصر سے دل شہوات کا اسیر نہیں ہوتا۔ آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو دل شہوات و خواہشات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر انسان دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے۔

۶۔ غض بصر سے انسان جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ احکام شریعت کی پابندی ہے مگر جو شخص محرمات کی پرواہ نہیں کرتا اور شریعت کے حجاب کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جہنم کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ نظر بازی کا مریض چونکہ نئے دن حسن و جمال کے پیکر کا متلاشی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہ سے محفوظ نہیں رہتا، یوں وہ دن بدن جہنم کے قریب اور جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ نظر کی حفاظت کرنے والا عموماً اس سے محفوظ رہتا ہے۔

۷۔ غض بصر عقلمندی کی، جبکہ نظر بازی حماقت اور بیوقوفی کی علامت ہے۔ کیونکہ عقلمند ہمیشہ عواقب پر نظر رکھتا ہے۔ اگر نظر بازی کا مرتکب اپنے انجام سے خبردار ہوتا تو وہ اس حماقت کا ارتکاب ہی نہ کرتا۔

۸۔ غض بصر سے انسان عشق کے نشہ نیز غفلت اور بے پرواہی سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ نظر بازی انسان کو اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل کرتی ہے اور عشق کے نشہ میں مست کر دیتی ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھئے کہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا ایسا ہے جیسے شراب کا پیالہ۔ عشق اس شراب کا نشہ ہے۔ عشق کا نشہ شراب کے نشہ سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے کیونکہ شراب کے نشہ سے تو جان چھوٹ جاتی ہے مگر عشق کا نشہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

۹۔ غض بصر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ حسن بن مجاہد فرماتے ہیں۔

”غض البصر عن محارم اللہ یورث حب اللہ“

”محرمات سے آنکھیں نیچی کر لینا اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے۔“

۱۰۔ غض بصر سے دل مضبوط ہوتا ہے اور اپنے آپ میں اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے

جبکہ نظر بازی کا مرتکب بزدل اور گناہ کی بنا پر ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے نافرمانی میں نہیں۔

۱۱۔ غضب بصر سے دل میں سرور، فرحت اور ایسا انبساط پیدا ہوتا ہے جو نظر بازی سے قطعاً حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنے دشمن کو زیر کرنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ غضب بصر سے بھی نفس امارہ کو جب جھٹک دیا تو اس سے خوشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنی اس فرمانبرداری پر یقیناً ایسی کامل لذت عطا فرمائیں گے جو خواہشات کی تکمیل میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات تو مسلمہ حقیقت ہے۔ ”لذۃ العفة اعظم من لذۃ الذنب“ عفت و پاکدامی کی لذت گناہ کی لذت سے بہت بڑی ہے۔

”غضب بصر“ کے یہ چند فوائد و ثمرات ہیں جن کا صاحب بصیرت انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضیات سے نوازے (آمین) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ (روضۃ المحبین ص ۱۱۵ تا ۱۱۶، انشاء اللہ صفحہ ۱۵۹، ۱۶۰ ج ۱، مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ص ۲۵۲ تا ۲۵۸ ج ۲)

## نظر بازی کا فتنہ اور اس کے نتائج

یہ دنیا بظاہر بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور انسان دنیا کی اسی ظاہری سچ دھج کو دیکھ کر اس کے دام ہمرنگ زمین پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اور یوں وہ یاد الہی سے غافل اور آخرت سے بے خوف ہو جاتا ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا ہے اور جو چیز عموماً اس غفلت کا سبب بنتی ہے اسے فتنہ یعنی آزمائش و امتحان قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا:

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (الانفال: ۲۸)

”بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ فَأَحَدُوهُمْ﴾ (التغابن: ۱۳)

”بے شک تمہارے لئے تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد دشمن ہیں ان سے بچو“  
 اس جہاں میں بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں ایسی وفا شعار بیوی اور  
 اطاعت گزار اولاد نصیب ہوتی ہے جو ایمان اور راست روی میں ان کی معاون و مددگار  
 ہوتی ہے۔ عقیدہ و عمل اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی  
 ہے۔ ورنہ عموماً ہوتا یوں ہے کہ مرد اور عورت میں دینی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ مرد اگر  
 نیک ہے تو بیوی اس کی امانت و دیانت کو اپنے لئے بد قسمتی سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ شوہر  
 اس کی خاطر حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر ہر طریقے سے عیش و عشرت کا سامان فراہم  
 کرے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مومنہ عورت کو ایسے شوہر سے سابقہ پڑتا ہے  
 جسے اس کی پابندی شریعت ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری  
 اولاد و ازواج میں سے بعض تمہارے لئے دشمن ہیں، تمہارے لئے فتنہ ہیں۔ اسی طرح  
 مال بھی انسان کے لئے فتنہ اور آزمائش ہے۔ اور انسان انہی کی محبت اور لگن میں پھنس کر  
 رہ جاتا ہے۔ مال و زر اور اپنی اولاد و ازواج ہی نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا  
 میری امت پر بے شمار فتنے ہوں گے مگر ان سب میں تکلیف دہ اور ضرر رساں عورتوں کا  
 فتنہ ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ“

(بخاری و مسلم)

”یعنی میں اپنے بعد مردوں کے لئے سب سے نقصان دہ فتنہ عورتوں کا  
 محسوس کرتا ہوں۔“

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انسان کی اس کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد  
 فرمایا ہے۔

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ﴾ (آل عمران: ۱۴)

”لوگوں کے لئے مرغوبات نفس عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرخیز زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں“  
 عموماً انسان انہی کی محبت میں پھنس کر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان اشیاء میں جس چیز کا اولین طور پر ذکر ہوا وہ یہی عورت ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَّةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا  
 فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَأَتَقُوا الدُّنْيَا وَأَتَقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ“ (مسلم)

”کہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تم عمل کیا کرتے ہو؟ دنیا اور عورتوں سے ڈرو اور بچو بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنے کا سبب عورت تھی۔“  
 اسی طرح حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي النِّسَاءَ وَالْحَمْرُ“

(مسند السراج، روضة المحبین، ذم الہوی)

”کہ میری امت پر مجھے سب سے زیادہ جس کا ڈر ہے وہ عورت اور شراب خانہ خراب ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس نازک مسئلہ کے سلجھاؤ اور اس فتنے کے آگے بند باندھنے کے لئے بہت سی حفاظتی تدابیر بیان فرمائیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے نیچا رکھا جائے اور غیر محرم کی طرف دیکھنے کو ابلیس کے زہریلے تیر سے تشبیہ دی، جس طرح زہر جسم و جان پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح جو انسان نظر بازی کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بھی بالآخر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے (اعاذا اللہ منہ)

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں دین کی حفاظت چار چیزوں ”لحظات، خطرات،

لفظات، خطوات“ میں ہے۔ یعنی نظر، دل کا خیال، بات چیت اور پاؤں سے آنا جانا۔ اور ان میں سرفہرست یہی ”اللحظات“ یعنی نظر بازی ہے۔ یہ شہوت و خواہشات کی قاصد اور پیا مبر ہے اور نگاہ کی حفاظت درحقیقت شر-گاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا اور انسان عموماً جن حوادث سے دوچار ہوتا ہے۔ نظر ان کی بنیاد ہے کیونکہ نظر دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے پھر کھٹک فکر کو وجود بخشتی ہے پھر فکر شہوت کو ابھارتی ہے۔ پھر شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے اور وہ قوی ہو کر عزمیت اور ارادہ کی پختگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مانع حاصل نہ ہو تو اس کے نتیجہ میں انسان بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ

”الصبر علی غض البصر ایسر من الصبر علی الم ما بعده“  
 ”آنکھ جھکانے پر صبر آسان ہے بعد کی تکلیف پر صبر کرنے سے“ یعنی  
 آنکھ بند کر لینا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر مشکل ہے۔

عربی شاعر نے کہا ہے ۔

کل الحوادث مبدأها من النظر  
 ومعظم النار من مستصغر الشرر  
 کم نظـرة بلغت من قلب صاحبها  
 کم بلغ السهم بین القوس والوتر

”کہ تمام حوادث کی بنیاد نظر ہے اور بڑی آگ کا سبب چھوٹی سی چنگاری ہے کتنی نگاہیں دیکھنے والے کے دل میں ایسی پیوست ہو جاتی ہیں جیسے تیر کمان سے نکل کر پیوست ہو جاتا ہے۔“ (الداء والدواء)

اور ظاہر ہے کہ نظر کا تیر اگر پیوست ہو گیا تو پھر اس سے حسرت، دل کی بے چینی و بیقراری بڑھتی ہے اور آہ و بکا نیم شمی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے لئے یارائے ضبط باقی نہیں رہتا ہے اور یہ ایک مستقل عذاب بن کر نیم بسل کی طرح اسے تڑپانے کا سبب بن جاتا ہے۔ مشہور شاعر میر درد نے اسی معنی میں کہا ہے ۔

وہ نگاہیں جو چار ہوتی ہیں برچھیاں ہیں کہ پار ہوتی ہیں  
کوئی اپنے درد کی کہانی یوں شروع کرتا ہے ۔

مارا بغمزہ کشت و قضا را بہانہ ساخت  
خود سوئے ما ندید و حیاء را بہانہ ساخت  
کسی نے اس حقیقت کا اظہار یوں کیا ۔

یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ہم ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں  
جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آہی جاتی ہے  
مصحفی نے بھی شکوہ کیا ہے ۔

دل لے گئے آنکھوں میں یہ تدبیر لگا کر  
آئے تھے جو کل سرمہء تسخیر لگا کر  
کسی نے کہا ۔

آئے ادھر کھڑے ہوئے زلفوں کو بل دیے  
آنکھیں چلا کے دل کو لیا اور چل دیے  
عربی شاعر نے بھی کہا ہے ۔

نظرة فابتسامة فسلام فکلام فموعد فلقاء

”پہلے نظر، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر کلام، پھر وعدہ، پھر ملاقات“

اور کوئی کہتا ہے ۔ ع

آنکھیں ہیں جیسے مے کے پیالے بھرے ہوئے

غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں ۔ انہی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اسلام نے نگاہ  
کی حفاظت کی تاکید کی ہے ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سے کہا تھا ۔

”امش وراء الاسد والا سود ولا تمش وراء امرأة“ (ذم الہوی : ص ۸۱)

”کہ شیر اور سانپ کے پیچھے چلو مگر عورت کے پیچھے مت چلو“

کیونکہ شیر کے حملے اور سانپ کے ڈسنے سے صرف جان جاتی ہے لیکن عورت

کا پیچھا کرنے سے ایمان بھی جاتا ہے۔ جس طرح لکڑیوں کو آگ کا معمولی شعلہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے اسی طرح نظر کا فتنہ دولت ایمان کو بھسم کر دیتا ہے۔ حافظ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اسی دوران میں اس کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر پڑی تو نقد دل ہار بیٹھا اور عین بیت اللہ میں چلا اٹھا۔

ما كنت احسب ان الحب يعرض لي  
عند الطواف ببیت اللہ ذی الستر  
حتى ابتليت فصار القلب مختبلا  
من حب جارية حوراء كالقمر  
ياليتنى لم اكن عاينت صورتها  
لله ماذا توخاني به بصرى

”میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ غلاف والے بیت اللہ کے طواف کے دوران میں مجھے محبت سے سابقہ پیش آجائے گا یہاں تک کہ میں محبت میں مبتلا ہو گیا اور دل ایک چاند جیسی خوبصورت لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ کاش میں نے اس کی صورت نہ دیکھی ہوتی، خدارا (دیکھو!) میری نگاہ نے کیا چیز میرا مطلوب و مقصود بنا دی ہے“

حافظ ابن قیمؒ نے ذکر کیا ہے کہ مصر میں ایک نوجوان رہتا تھا مسجد میں اذان دیتا نماز پڑھتا تھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور عیاں تھا۔ ایک روز وہ حسب عادت مسجد کے منارہ پر اذان دینے کے لئے چڑھا تو مسجد کے پڑوس میں ایک عیسائی کی خوبصورت لڑکی پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ منارے سے اتر کر اس کے گھر چلا گیا اس لڑکی نے کہا تم کیسے اور کیوں یہاں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس نے کہا میں تیری آرزو کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی۔ میرا والد اس صورت میں نکاح پر رضامند نہیں ہوگا کہنے لگا میں عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ کہنے لگی اگر یوں ہو جائے تو نکاح ہو سکے گا چنانچہ وہ عیسائی ہو گیا اور ان کے ساتھ رہنے کا اسی اثنا میں وہ



ایک رات سونے کے لئے مکان کی چھت پر گیا۔ پاؤں پھسلا تو نیچے آگرا اور مر گیا۔ یوں وہ اس سے نکاح پر قادر نہ ہو سکا بلکہ دولت ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ (اعاذنا اللہ منہ) (الداء والدواء: ص ۲۴۲) اسی قسم کا ایک واقعہ بغداد کے ایک موذن کا حافظ ابن جوزی نے (ذم الھوی: ص ۳۴۸) میں نقل کیا ہے۔

مسند امام احمد میں حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے جسے علامہ ابن جوزی نے ایک اور سند سے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے زمانہ میں ایک آدمی دریا کے کنارے رہتا تھا جہاں وہ تین سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا رات کو قیام کرتا۔ ایک روز اس کے پاس سے ایک عورت گزری تو وہ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ عبادت چھوڑ دی بلکہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس سے عشق و محبت کے نتیجے میں کافر ہو گیا۔ مگر ایک عرصہ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمادی تو اس نے توبہ کر لی۔

عشق و محبت کی بنا پر قتل گری کی داستانیں طویل ہیں بلکہ نت نئے دن بے شمار لوگ عشق کی بھینٹ چڑھتے ہیں بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ کی شہادت کا شاخسانہ بھی یہی تھا کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی عورت پر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے اس شرط پر عبد الرحمن سے نکاح کرنا منظور کیا کہ وہ حضرت علیؓ کو قتل کرے گا۔ چنانچہ شادی کے بعد اس ظالم نے شرط کے مطابق حضرت علیؓ کو شہید کیا اور بالآخر خود بھی جہنم رسید ہوا۔ (الصواعق المحرقة: ص ۱۳۵) یہ اور اس نوعیت کے بے شمار واقعات اسی نظر بازی اور عشق کا نتیجہ ہیں اس لئے اسلام نے نظر بازی سے منع فرمایا اور نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا تا کہ انسان ان برائیوں سے محفوظ رہ سکے۔

## شر بصر اور فتنہ نساء سے پناہ

آنکھ کی اسی فتنہ گری کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے اس کے شر و فساد سے پناہ طلب کی چنانچہ اپنے رب رحیم و کریم سے جہاں دنیا و آخرت کی بہتری اور فوز و فلاح کے لئے دعائیں مانگیں وہاں یہ التجا بھی کی۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي“ (ابوداؤد، نسائی، احمد)

”اے اللہ! میں اپنے کان کے شر سے اپنی آنکھ کے شر سے اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“  
کبھی آپ نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی:

”اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ“ (مشکوٰۃ: ۲۵۰۱)

”اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریاء و دکھاوے سے، زبان کو جھوٹ سے، آنکھ کو خیانت سے پاک صاف کر دے۔ بے شک آپ آنکھوں کی خیانت اور سینہ کے چھپے رازوں کو جانتے ہیں۔“  
اور کبھی یوں عرض کرتے۔

”اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي سَمْعِي وَبَصَرِي“  
”اے اللہ! میرا کان اور میری نظر صحیح کر دے۔“ (الادب المفرد)

اسی طرح آپ کی ایک دعا کے الفاظ یوں ہیں:  
”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ (الخرائطی فی اعتدال القلوب، کنز العمال)  
”اے اللہ! میں عورتوں کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

## غض بصر اور ہمارے اسلاف

نبی کریم ﷺ نے نظر کی آوارگی اور اس کے فتنے سے جس انداز سے خبردار کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے عملاً اس میں بڑے حزم و احتیاط کا مظاہرہ فرمایا اور تاریخ میں اپنے عمل و کردار کے ایسے نقوش چھوڑے جو ہمیشہ ہمارے لئے مشعل راہ

ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا فرمان ہے: کہ ایک آدمی کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے اور جب محسوس کرتا ہے اس کی توجہ میری طرف ہے تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے مگر جب وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بے خبر ہے تو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے لیکن اچانک دوبارہ عورت اس کی طرف التفات کرتی ہے تو وہ پھر آنکھیں نیچی کر لیتا ہے ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی ہر حرکت کو دیکھتے ہیں وہ انسان کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دل کے مخفی رازوں سے بھی واقف ہیں۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا خیالات چٹکیاں لے رہے ہیں۔

حضرت عطاء بن ابی رباحؓ فرماتے ہیں: کہ جو نظر دل میں گھر کر جائے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ امام ربیع بن خثیمؒ جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے وہ تلمیذ ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ:

”لَوْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا حَبَّكَ“ الخ

”اگر تمہیں رسول اللہ ﷺ دیکھ لیتے تو تم سے محبت کرتے میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ والے یاد آجاتے ہیں“ انہی کے بارے میں امام سفیان ثوریؒ کا بیان ہے کہ امام ربیعؒ عموماً اپنی نگاہیں نیچی رکھتے، راہ چلتے انہیں عورتیں دیکھ کر کہتیں: ربیعؒ نابینا ہے۔

”وَتَعَوَّذَنَ بِاللَّهِ مِنَ الْعَمَى“ (ذم الہوی)

”اور انہیں دیکھ کر بینائی کے ضائع ہونے پر اللہ کی پناہ طلب کرتیں۔“

امام سفیان ثوریؒ سے جب کوئی امر کسی حدیث کے بارے میں استفسار کرتا، یا کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو فرماتے ”یا غلام در من خلفی“ کہ بچے میرے پیچھے ہو جاؤ (تہذیب ابن عساکر ص ۳۹ ۶۷) عمرو بن مرثدہؒ کا شمار بھی طبقہ تابعین کے حفاظ حدیث میں ہوتا ہے صحاح ستہ کے مشہور راوی ہیں آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ امام شعبہؒ فرماتے ہیں کہ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھتا تو خیال کرتا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ان کی نماز قبول و

منظور ہو جائے گی (تہذیب) انہی کے بارے میں ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا: ”ما أحب أنى بصير أنى أذكر أنى نظرت نظرة وأنا شاب“ جو ان کے عالم میں مجھے اپنی ایک نگاہ یاد ہے اس لئے میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میری نظر ہوتی۔

حضرت حسان بن ابی سنان ” کا شمار امام حسن بصریؒ کے تلامذہ میں ہوتا ہے۔ راہ چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھنے میں ان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ نماز عید پڑھ کر واپس لوٹے تو کسی نے کہا آج نماز عید میں بہت عورتیں شریک ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرمایا ”ما تلتقتنى امرأة حتى رجعت“ ”واپس تک مجھے تو کوئی عورت نہیں ملی۔“ عید ہی کے روز باتوں باتوں میں ان کی بیوی نے ان سے کہا آج تو آپ نے خوبصورت عورتوں کو دیکھا ہوگا فرمانے لگے گھر سے نکلنے سے واپس تک اپنے انگوٹھوں کو دیکھتا رہا مجھے تو کوئی عورت نظر نہیں آئی۔

حافظ ابن جوزیؒ ہی نے ذکر کیا ہے کہ داؤد بن عبداللہ بصرہ تشریف لے گئے ایک آدمی نے انہیں اپنا مہمان ٹھہرایا۔ اتفاقاً اسے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہوئی تو اس نے نیک سیرت بیوی ”جس کا نام زرقاء تھا“ سے کہا میرے مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ صاحب خانہ واپس لوٹے تو اس نے داؤد بن عبداللہ سے پوچھا ”زرقاء“ نے آپ کی خدمت مدارت میں کوئی کمی تو نہیں کی، اسے آپ نے کیسا پایا؟ فرمانے لگے: ”زرقاء“ کون؟، اس نے کہا اس گھر کی ملکہ، میری بیوی کا نام ہے۔ کہنے لگے میں نے کسی زرقاء یا کھلاء یعنی نیلی یا سیاہ آنکھوں والی کو نہیں دیکھا۔ خاوند حیران رہ گیا۔ گھر جا کر بیوی کو سخت ست کہا کہ میں نے تمہیں اپنے مہمان کے بارے میں نصیحت کی تھی تو نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اس نے جواباً کہا ”أوصيتنى برجل أعمى والله ما رفع طرفهالى“ آپ نے مجھے اندھے آدمی کی خدمت کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا“ (ذم الھوى)

شیخ عبدالعزیز بن رواد کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ نہایت عابد و زاہد

تھے، یوسف بن اسباط کا بیان ہے کہ ان کے حیا کا عالم یہ تھا کہ ”مکث أربعين سنة لم يرفع طرفه إلى السماء“ کہ چالیس سال تک انہوں نے اپنی نظر آسمان کی طرف نہیں اٹھائی<sup>①</sup> بات بظاہر بڑی عجیب سی ہے جسے تسلیم مشکل سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ ان کے بارے میں حافظ ذہبی کا بیان ہے ”ذهب بصر عبد العزيز عشرين سنة ولم يعلم به اهله وولده“ ”کہ ان کی نظر چلی گئی مگر بیس سال تک ان کے اہل و عیال کو اس کا علم نہ ہوسکا“ (سیر اعلام النبلاء، ص ۱۸۳، ۱۸۵ ج ۷) بلاشبہ یہ بات عقل و فکر کے بظاہر منافی ہے۔ حافظ ذہبی نے بلا اسناد سے ذکر کر دیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو شیخ عبدالعزیز کی خود اعتمادی اور دنیا سے بے رغبتی کی بہت بڑی دلیل ہے۔

عبداللہ بن ابی الہذیل کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے رفقاء کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہاں ان کے مصاحبوں میں سے ایک صاحب خاتون خانہ کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے فرمایا ”لو تفقت عیناک کسان خیر الک“ ”کہ اس عورت کو دیکھنے کی بجائے تیری آنکھیں پھوٹ جاتیں تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا“ (الادب المفرد، ص ۳۳۳ ذم الہوی)

شیخ الاسلام امام یحییٰ بن شرف نووی صحیح مسلم کے شارح اور شرح المہذب کے مصنف سے کون واقف نہیں؟ ان کے بارے میں انہی کے تلمیذ یحییٰ بن علی الصالحی کا بیان ہے کہ میں ابھی امر د تھا کہ میرے والد مجھے امام نووی کی مجلس میں لے گئے۔ تاکہ ان سے علم حاصل کروں۔ انہوں نے فرمایا ”أنا أرى أن النظر إلى الأمرود حرام مطلقاً“ میں امر د کو دیکھنا مطلقاً حرام سمجھتا ہوں۔ اس لئے آپ کے بیٹے کو پڑھانہیں سکتا۔ آپ اسے شیخ تاج الدین کے پاس لے جائیں۔ (الدرر الکامنة، ص ۴۲۲ ج ۴) علامہ ابن جوزی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ

① آسمان کی طرف دیکھنا نماز کے ملاوہ اوقات میں منع نہیں۔ مگر اس سے امام عبدالعزیز کے حیا

علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بار بارش نہ ہوئی تو آپ لوگوں کے ساتھ بارش کے لئے دعا کرنے نکلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کے ساتھ تو بڑے خطا کار لوگ ہیں انہیں بتلا دو یوں بارش نہیں ہوگی۔ انہوں نے قوم کو اس سے خبردار کیا، اور فرمایا ایسے لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ وہ ایک طرف ہو گئے، مگر ایک آدمی ان کے ساتھ رہا جس کی دائیں آنکھ نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا: تم علیحدہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی! میں نے کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ البتہ ایک بار میری یہ آنکھ غیر محرم کی طرف اٹھ گئی تھی میں نے اسے نکال دیا دوسری آنکھ بھی یہی غلطی کرتی تو میں اس کا بھی یہی حشر کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا تم دعا کرو، اس کے تم حقدار ہو، چنانچہ اس نے یوں دعا کی:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنَا وَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَعْمَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلُقَنَا  
فَلَمْ يَمْنَعَكَ ذَلِكَ أَنْ تَخْلُقَنَا وَتَكَلِّمْتَ بَارِزًا قَيْنَا فَأَرْسَلْ عَلَيْنَا  
مِدْرَارًا.“ (ذم الهوی)

”اے اللہ! آپ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے سے پہلے آپ جانتے تھے کہ ہم کیا عمل کریں گے۔ پھر بھی آپ نے ہمیں پیدا کیا لہذا جب آپ نے ہمیں پیدا کیا اور خود ہی ہماری روزی کا ذمہ بھی لیا ہے تو ہم پر موسلا دھار بارش برسا دے۔“

ابھی وہ یہ کلمات کہہ رہا تھا کہ آسمان پر بادل نمودار ہوا اور بارش برسنے لگی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ: علی وجہ التسليم اس واقعہ کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کی شریعت میں گناہ کے ارتکاب میں یہ سزا جائز ہو، مگر ہماری شریعت میں یہ ناجائز ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عیسائی مذہب میں ایسی آنکھ کو نکال دینے کا ہی حکم ہے۔ اس لئے اس کا عمل عیسائی مذہب کے مطابق تھا لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، علامہ موصوف نے راہبوں کے اسی نوعیت کے اور واقعات بھی نقل کئے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے لئے مشعل راہ نہیں۔ البتہ بد نظری کے انجام اور اس کے نتائج و عواقب

سے ڈرتے ہوئے ہمارے اسلاف کا ذکر یقیناً فائدے سے خالی نہ ہوگا۔

چنانچہ امام مالکؒ بیان فرماتے ہیں کہ: یونس بن یوسف اور ایک روایت میں یوسف بن یونس بن حماس کا شمار نہایت عابد و زاہد اور پسندیدہ حضرات میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ وہ مسجد سے واپس آرہے تھے کہ انہیں ایک عورت راستے میں نظر آئی اور اس کے بارے میں دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! یہ آنکھ تو آپ نے مجھے ایک بڑی نعمت دی تھی مگر اب خوف آنے لگا ہے کہ یہ کہیں میرے لئے فتنہ و فساد کا موجب نہ بن جائے اس لئے عرض ہے کہ میری بینائی جاتی رہے تاکہ میں کہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کی نظر جاتی رہی، مسجد میں ایک ان کا عزیز بچہ لے جاتا تھا وہ مسجد میں عبادت کرنے لگتے اور بچہ کھیل کود میں مصروف ہو جاتا جب جانا ہوتا یا کوئی ضرورت درپیش ہوتی وہ بچے کو بلا لیتے۔ اسی اثناء میں ایک روز وہ مسجد میں تھے کہ پیٹ میں گڑ بڑ ہوئی انہوں نے بچے کو بلا لیا تو وہ نہ آیا انہوں نے کہا آج کہیں اسی مسجد میں بول و براز کی بنا پر شرمسار نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ! آپ نے آنکھوں کو نعمت بنایا، میں نے اس میں فتنہ و فساد کو پا کر آپ سے ان کے ختم ہونے کی دعا کر دی۔ مگر آج یہاں مسجد میں خطرہ ہے کہیں رسوا نہ ہو جاؤں آپ میری بینائی بحال کر دیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نظر درست کر دی اور یوں وہ باسانی اپنے گھر چلے گئے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں نابینا اور بینا دونوں حالتوں میں دیکھا ہے۔

امام یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ ایک عورت قدیل کے پاس کھڑی تھی کہ ایک آدمی نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اسے سمجھایا، اور اس عورت نے اسے کہا تو اس چیز کی طرف دیکھتا ہے جو کسی اور کی ملک ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے، چنانچہ وہ نابینا ہو گیا۔ بیس سال اسی طرح گزر گئے، جب وہ

اس کا علاج غرض بصر تھا۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے ضائع کرنے کی دعا رہبانیت تو ہو سکتی ہے، اسلام کی یہ بہر حال تعلیم نہیں۔ ہم نے یہ واقعات محض بطور عبرت نقل کئے ہیں

بوزھا ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ میری نظر بحال ہو جائے، چنانچہ اس کی نظر درست ہو گئی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتلایا کہ میں نے اسے نابینا ہونے سے پہلے بھی دیکھا اور نابینا ہونے کے بعد بڑھاپے میں صحیح نظر کی حالت میں بھی دیکھا۔

فقیر ابو العباس محمد بن عبدالرحمن حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے نہا رہے ہیں، انہوں نے یہ ماجرا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ان میں سے ایک نے کہا آپ کب سے نابینا ہو گئے ہیں؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا جب سے تم بے شرم ہو گئے ہو۔ (شعب الایمان: ص ۱۶۳ ج ۶)

شیخ محمد بن عمر بن الفتوح التلمسانی بڑے خوبصورت نوجوان تھے ایک روز ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری، تو یہ اس کی طرف دیکھنے لگے اس عورت نے یہ حرکت دیکھی تو کہا:

”اتَّقِ اللَّهَ يَا بَنَ الْفُتُوْحِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي

الصُّدُورُ“ (نیل الایمان علی ہامش الدبیاج: ص ۲۹۲)

”اے فتوح کے بیٹے! اللہ سے ڈرو، وہ آنکھ کی خیانت اور سینے کے بھید

کو جانتا ہے“

کہتے ہیں کہ یہی بات ان کے زہد کا باعث بنی۔ گھر کو خیر باد کہا اور علم و عمل کی زندگی اختیار کر لی، ویران مسجد کو تلاوت قرآن سے آباد کرتے ۸۱۸ھ میں بخاری شریف پڑھ رہے تھے کہ طاعون کا حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔

قصہ پارینہ کو جانے دیجئے برصغیر میں سیدین شہیدین یعنی سید احمد اور سید محمد اسماعیل رحمہما اللہ سے کون واقف نہیں؟ احیاء سنت اور استیصال بدعت کے ساتھ ساتھ عملاً جہاد اور نفاذ اسلام کے سلسلے میں ان کی مساعی جلیلہ سے کون بے خبر ہے؟ عملی زندگی کا جو تصور انہوں نے پھونکا اس سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مولانا غلام رسول مہر مرحوم نے لکھا ہے:

”غازیوں کے زہد و تقویٰ سے ہر شخص متاثر تھا ایک مرتبہ ملا کلیم اخوندزادہ نے



خود گاؤں کی عورتوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا کہ سید بادشاہ کے ساتھی یا تو خلقاً خواہشات نفسی سے محروم ہیں یا اولیاء ہیں۔ پن چکیوں پر آنا پوانے آتے ہیں لیکن کیا مجال آج تک کسی غازی کی نگاہ عورت کی طرف اٹھی ہو۔‘ (سید احمد شہید: ص ۴۴۳)

ابھی کل کی بات ہے، حضرت مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکوٹیؒ کے علم و فضل سے کبھی واقف ہیں مولانا محمد عبداللہ صاحب آف بورے والا مدظلہ نے ایک بار ذکر کیا کہ جھنگ شہر کی جامع مسجد اہل حدیث میں سالانہ تبلیغی کانفرنس تھی۔ مولانا سیالکوٹی بھی مدعو تھے۔ تقریر کے لئے اسٹیج پر تشریف لائے تو خطبہ کے دوران سامنے برآمدے کی چھت پر عورتوں کو دیکھ کر پگڑی کے ایک بندو آنکھوں پر ڈال لیا اور یوں ہی پوری تقریر کی۔ تقریر سے فارغ ہو کر انتظامیہ کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھے تو فرمایا: میں جلسہ کو خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وقت عورتوں کو وہاں سے اٹھانے کا کہتا تو آپ کے لئے مشکلات کا باعث ہوتا اس کا انتظام میں نے خود ہی کر لیا۔ آئندہ عورتوں کو کہیں اور مناسب جگہ پر بٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔

ان واقعات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی بے حاجابی سے ہمارے اسلاف کس قدر خائف تھے اور اس بارے میں وہ کتنے محتاط تھے۔ اللھم اجعلنا منھم

## بینائی چھیننے والا بحال کرنے پر بھی قادر ہے

ان واقعات سے ظاہر بین نگاہیں تعجب کا اظہار کریں گی مگر وہ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ جس قادر مطلق نے بینائی چھین لی، وہ اسے درست کرنے پر بھی قادر ہے کوئی چیز اس کی قدرت کاملہ سے خارج نہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسی اور بھی مثالیں موجود ہیں جن کا انکار مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ حضرت زینرہؓ سابقین اولین میں سے تھیں۔ جنہیں اسلام لانے کی پاداش میں ابو جہل تختہ مشق بنا تا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے خرید کر انہیں آزاد کر دیا، اسلام لانے کے بعد اتفاق سے ان کی بینائی جاتی رہی تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ لات وعزی کی مار اس پر پڑی ہے انہوں نے اس کی بینائی ضائع

کردی ہے مگر وہ فرماتیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں لات وعزی کو نہیں مانتی یہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جس مالک نے میری نظر ختم کر دی ہے وہ اسے بحال کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بینائی درست کر دی۔ (الاصابہ ص ۹۱ ج ۴)

حضرت عثمان بن حنیفؓ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے آپ نے فرمایا: اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اگر چاہتے ہو تو اسے موخر کر دیتا ہوں، یہ تمہارے لئے بہتر ہے (یعنی دعا نہیں کرتا بینائی چلے جانے پر اگر صبر کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی صورت میں پائے گا) مگر اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیں چنانچہ آپ نے اسے وضو کر کے دو رکعت پڑھ کر ایک دعا کرنے کا کہا، اس نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی درست فرمادی۔ (مسند امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، الحاکم وغیرہ)

حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ کی صغریٰ میں آنکھیں خراب ہو گئیں۔ جس کے نتیجے میں ان کی بصارت جاتی رہی، امام بخاریؒ کی والدہ محترمہ جو بڑی عابدہ اور صاحب کرامات خاتون تھیں، دعا کیا کرتیں کہ اے اللہ! میرے بیٹے کی بینائی درست کر دو۔ ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری کثرت دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹادی ہے۔ چنانچہ اسی شب کو جب وہ بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند کی بینائی درست کر دی۔ (تاریخ بغداد: ص ۲۱۰ ج ۲، ہدی الساری: ص ۲۷۸)

اسی طرح امام یعقوب بن سفیان فسوی المتوفی ۲۷۷ھ کا واقعہ بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے خود ان کا اپنا بیان ہے کہ دوران تعلیم سفر میں زاد سفر ختم ہونے لگا تو میں ایک لمحہ ضائع کئے بغیر دن رات لکھنے پڑھنے میں مصروف رہنے لگا، دن بھر تعلیم حاصل کرتا اور رات کو چراغ کی روشنی میں احادیث لکھتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسی طرح ایک رات میں احادیث لکھنے میں مصروف تھا کہ نزول ماء کا اچانک حملہ ہوا میری نظر بند ہو گئی نہ مجھے چراغ نظر آتا اور نہ ہی مکان کے در و دیوار نظر آتے، پریشانی کے

عالم میں میرے آنسو بہہ نکلے ایک تو گھر سے دور سفر میں ہوں، دوسرا اب شاید علم حاصل نہ کر سکوں۔ اسی حالت میں مجھے نیند آگئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ تشریف لائے ہیں مجھے آواز دی اور فرمایا: کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بینائی چلے جانے سے آپ کی احادیث لکھنے سے محروم ہو گیا ہوں اور گھر سے بھی دور ہوں۔ آپ نے فرمایا: میرے قریب آؤ میں قریب ہوا تو آپ نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرتے ہوئے کچھ دم کیا۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو بینائی بحال ہو چکی تھی، میں نے اسی وقت قلم و قرطاس سنبھالا اور احادیث لکھنے لگا۔

(السیر: ۱۸۲ ج ۱۳، التہذیب: ص ۳۸۶ ج ۱، البدایہ: ص ۶۰ ج ۱۱)

ساک بن حرب فرماتے ہیں کہ میری بینائی ضائع ہو گئی میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری بینائی درست فرمادی۔ (السیر: ص ۲۳۶ ج ۵) اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بینائی کا تذکرہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لئے تاریخ کے اوراق میں بھی جو بعض حضرات کی بینائی درست ہونے کا ذکر ہے وہ بھی کوئی مستعد بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔

## امر د کو دیکھنا

نظر کے فتنے سے بچنے کے لئے غیر محرم کو دیکھنا ہی ناجائز نہیں بلکہ امر د کو دیکھنا بھی خطرہ سے خالی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ ”امر د“ اس خوبصورت لڑکے کو کہتے ہیں جس کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو۔ عورت کی طرح امر د بھی فتنے کی جڑ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس فتنے میں مبتلا ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ آنحضرت ﷺ نے بھی متلذذ بالمشل کے بارے میں فرمایا: فاعل ومفعول دونوں کو قتل کر دو۔ (ترمذی، ابو داؤد، ابن حبان، مسند امام احمد) نیز آپ نے فرمایا یہ بدعمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو (مسند امام احمد) حافظ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ لوطی کے قتل پر متفق ہیں، اکثر تابعین کرام کے علاوہ امام احمد، امام شافعی، امام اسحاق، امام اوزاعی وغیرہم رحمہم محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے (الداء والدواء: ص ۲۳۶-۲۳۹) امرد کے اسی فتنے سے بچنے کے لئے سلف نے اس کی طرف دیکھنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے بلکہ حافظ محمد بن ناصر نے امام شععی سے مرسلایہ روایت بیان کی ہے کہ قبیلہ عبد قیس کا وفد جب اسلام لانے کے لئے آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو ان میں ایک امرد بھی تھا، آپ نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا ”کان خطینة من ماضی من النظر“ پہلے جو گزر گئے ہیں ان کا گناہ یہی نظر تھا۔ (روضۃ المحبین ص ۱۱۵) مگر یہ روایت مرسل ضعیف ہے، حافظ ابن جوزی نے (ذم الہوی: ص ۹۰) میں اسے مجالد بن سعید، عن الشععی کی سند سے ذکر کیا ہے اور مجالد ضعیف اور سلسلہ سند مچھول ہے، نیز دیکھئے الفوائد المجموعہ (ص ۲۰۶) ”امرد“ کو مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت پر حضرت انسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایات بھی مروی ہیں مگر ان کی اسناد ضعیف ہیں جیسا کہ العلل المتناہیة (ص ۲۸۴ ج ۲) میں اس کی تفصیل موجود ہے اس لئے ہم نے انہیں قلمزد کر دیا ہے ۱۰ البتہ بعض صحابہ و تابعین کرام اور دیگر اہل علم سے اس کی ممانعت منقول ہے چنانچہ حضرت سعید بن مسیبؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی امرد کی طرف نظر جما کر دیکھ رہا ہے تو اسے برے عمل سے متہم سمجھو۔ امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں:

”کانوا یکرہون مجالسة أبناء الملوک وقال مجالستہم

فتنة وانما هم بمنزلة نساء“

(ذم الہوی: ص ۹۲ روضۃ المحبین ص ۱۱۵)

”کہ وہ بادشاہوں کے بیٹوں کی مجلس میں بیٹھنے کو مکروہ سمجھتے تھے انہوں

نے فرمایا: ان کے پاس بیٹھنا فتنہ کا باعث ہے کیونکہ وہ عورتوں کے قائم

مقام ہیں۔“

۱۰ افسوس کہ حافظ ابن جوزی نے خود انہی روایات کو ”ذم الہوی“ اور ”تلمیس ابلیس“ میں بلا تکرار نقل کر دیا ہے غالباً وہ انہیں موضوع نہیں، ضعیف سمجھتے ہیں اسی لئے ترغیب و ترہیب کے باب میں تسابیل سے کام لیا ہے۔ واللہ اعلم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

امام ابراہیم نخعیؒ جب ”کانو ایکرھون“ یا ”کانو ایفعلون“ جیسے الفاظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کے شیوخ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ کے شاگرد ہوتے ہیں (الصارم المکتبی: ص ۴۴۲) معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تلامذہ امر کی صحبت کو مکروہ سمجھتے تھے بلکہ حضرت عمر فاروقؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”ما أتى على العالم سبع ضار أخوف عليه من غلام أمرد“

(تلبیس ابلیس: ص ۶۵)

”مجھے کسی عالم پر ایذا رساں درندے کا اس قدر خوف نہیں جتنا کہ امرد لڑکے کی طرف سے ہے۔“

یعقوب بن سواک کا بیان ہے کہ ہم ابونصر بن حارث کے پاس تھے کہ ایک خوبصورت عورت آئی اور اس نے آکر پوچھا ”این مکان باب حرب“ کہ باب حرب کس جگہ پر ہے تو ابونصرؒ نے فرمایا: یہ سامنے جو دروازہ ہے باب حرب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک حسین و جمیل لڑکا آیا اور اس نے آکر یہی سوال کیا ”باب حرب“ کہاں ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہم نے اس لڑکے سے کہا ادھر آؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ”باب حرب“ کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کدھر ہے؟ ہم نے کہا وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ تو چلا گیا، پھر ہم نے ابونصر سے پوچھا کہ عورت آئی تو آپ نے اس سے کلام کیا، مگر یہ لڑکا آیا تو اسے آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اسی طرح کیا، کیونکہ مجھے امام سفیان ثوریؒ کی یہ بات پہنچی ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جبکہ لڑکے کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں میں اپنے آپ پر اس کے دو شیطانوں سے ڈر گیا تھا۔

امام احمد بن صالحؒ ابو جعفر مصری کا شمار بڑے محدثین میں ہوتا ہے امام بخاریؒ اور ابوداؤد وغیرہ کے مشہور استاد تھے ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کسی امرد کو نہ حدیث پڑھاتے اور نہ ہی اسے اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیتے۔ امام ابوداؤدؒ اپنے فرزند کو ان کی خدمت میں لے گئے تاکہ اسے بھی ان سے شرف تلمذ حاصل ہو جائے۔ تو امام احمد بن

صالح نے اسے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ امام ابو داؤد نے عرض کی کہ بچہ گوا بھی چھوٹا ہے مگر امتحان لے کر دیکھ لیں داڑھی والوں سے یہ زیادہ ذہین و فطین ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا امتحان لیا، پھر کہیں جا کر اسے پڑھنے کی اجازت دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن ابی داؤد کے علاوہ امام احمد مصری نے کسی امرد کو حدیث کا درس نہیں دیا۔ (ذم الھوی: ص ۹۳) امام نووی کا قول و عمل آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ وہ بھی امرد کو پڑھانے کے قائل نہ تھے <sup>۱</sup> امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین کے بارے میں منقول ہے وہ بھی امرد کی صحبت کو درست نہیں سمجھتے تھے امام ابو بکر مروزی فرماتے ہیں کہ حسن بن بزاز، امام احمد کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ انہوں نے امام صاحب سے کچھ باتیں کیں۔ جب اٹھ کر جانے لگے تو ان کو امام صاحب نے فرمایا اس امرد کے ساتھ مت چلا پھر کرو، انہوں نے کہا یہ تو میرا بھانجا ہے، امام احمد نے فرمایا خواہ تیرا بھانجا ہی سہی، لوگ خواہ مخواہ تمہارے بارے میں برا گمان کر کے گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی طرح ابو علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنید سے سنا فرماتے تھے کہ ایک شخص امام احمد کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا لڑکا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا: آئندہ اسے اپنے ساتھ نہ لانا جب وہ جانے لگا تو حافظ محمد بن عبدالرحمن نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے یہ شخص پرہیزگار ہے اور اس کا بیٹا اس سے بڑھ کر ہے امام احمد نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ اسے کہا یہ ان دونوں کے پرہیزگار ہونے کے منافی نہیں، ہم نے اپنے شیوخ کو اسی طرح پایا اور وہ اپنے اسلاف کے بارے میں بتلاتے تھے کہ امرد کی مجلس و مصاحبت اچھی نہیں۔ امام یحییٰ بن معین کے شاگرد محمد بن حسین تھے۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ انہی کے بارے میں محمد بن ابی القاسم کا

۱ یہ محض ان حضرات کا احتیاطی پہلو اور ذاتی رجحان ہے یہ نہیں کہ امرد کو تعلیم دینا ہی جائز نہیں۔ صغار صحابہ کرامؓ نبی کریم ﷺ اور کبار صحابہ کرامؓ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تا نبوز امت میں مسلسل جاری و ساری ہے البتہ تعلیم کے دوران دلی میلان اور محبت بھری باتیں بہر حال غلط ہیں۔

بیان ہے کہ ہم محمد بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہمارے ساتھ ایک امر دتھا جو مجلس میں ان کے سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے فرمایا تم میرے سامنے سے اٹھ جاؤ اور میرے پیچھے آکر بیٹھو۔ فتح موصلی فرماتے ہیں کہ میں تیس مشائخ سے ملا ہوں ان میں سے ہر ایک نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ وصیت کی کہ نوجوانوں کی ہم نشینی سے بچتے رہنا۔ امام بشر بن حارث حافی فرماتے تھے کہ خوبصورت لڑکوں سے پرہیز کیا کرو۔

(ذم الھوی، تلخیص ابلیس)

اللہ والوں میں ایک نام امیہ بن صامتؓ کا بھی ہے۔ حافظ ابن جوزیؒ نے ذکر کیا ہے کہ اتفاقاً انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا تو یہ آیت تلاوت کی ﴿هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ”جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب دیکھتا ہے۔“ پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے قید خانے سے کون بھاگ سکتا ہے اس نے تو قید خانے کے نگران بڑے سخت اور کرخت فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! میرا اس لڑکے کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہے اس کی طرف دیکھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی روز تیز ہوا چل رہی ہو اور جنگل میں اچانک آگ بھڑک اٹھے اسی حالت میں آگ ہر سو بہت جلد پھیل جائے گی اور ہر چیز کو جلا کر راکھ بنا دے گی۔ پھر کہنے لگے میری آنکھ نے میرے دل میں کچھ متعجب کیا ہے میں اس سے اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کا خواستگار ہوں۔ مجھے اس کا خوف ہے کہ میں اس گناہ کی بنا پر کہیں مستوجب سزا نہ قرار پاؤں، اگرچہ روز قیامت ستر صد یقوں کے عمل بھی میرے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر آبدیدہ ہو گئے یہاں تک کہ دیکھنے والے خیال کرتے تھے کہ کہیں فوت نہ ہو جائیں وہ روتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے:

”یا طرف لاشغلنک بالبکاء عن النظر الی البلاء“

”اے آنکھ! میں تجھے اس بلا انگیز نگاہ سے ہٹا کر گریہ و زاری میں

مشغول رکھوں گا“ (تلخیص ابلیس)

بعض صوفیاء نے امر کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دیا اس سلسلے میں ہر ایک کی

اغراض مختلف اور بڑی دلچسپ ہیں جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ شائقین حضرات تلبیس ابلیس کا دسواں باب ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابو الوفاء ابن عقیل نے کہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی شکل و صورت دیکھنے سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اس کا یہ کہنا بے بنیاد ہے کیونکہ شریعت کا حکم عام ہے کسی کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن پاک کی آیت ایسے دعوؤں کا انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَغَضُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ﴾ اے رسول ﷺ! اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور فرمایا ﴿اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ یعنی یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس شکل و صورت میں وہ بنایا گیا ہے؟ اور آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے کہ کس طرح اسے بلند و بالا کیا گیا ہے؟ اور پہاڑوں پر نظر نہیں دوڑاتے کہ کس طرح انہیں نصب کیا گیا ہے؟ پس انہی صورتوں کو دیکھنا جائز ہو جن کی طرف نفس کو کوئی رغبت نہیں اور جن میں خواہشات نفسانی کا کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ یہ چیزیں ایسی عبرت ناک ہیں جن میں ذرہ برابر شہوت کی آمیزش نہیں اور لذت کا وہاں کوئی میل جوڑ نہیں۔ اور جس شکل و صورت میں عبرت کا کوئی سامان نہیں اس کی طرف دیکھنا درست نہیں، کیونکہ ایسی نظر باعث فتنہ ہے یہی وجہ ہے کہ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا اور نہ ہی کس کو قاضی، امام یا موذن بنایا۔ اس لئے کہ عورت فتنہ و شہوت کا محل ہے اور اکثر اوقات عورت کو دیکھنے سے شریعت کا مقصد ختم ہو کر رہ جاتا ہے اب جو شخص یوں کہے کہ میں اچھی صورتوں سے عبرت حاصل کرتا ہوں تو ہم کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے یہ محض شیطان کا دھوکا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ (تلبیس ابلیس)

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے ایک فتویٰ میں اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے اور صاف طور پر لکھا ہے کہ جس طرح اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح امرد کو دیکھنا بھی بالاتفاق حرام ہے۔ یعنی امرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا اسی طرح حرام ہے جیسے محرمات ماں، بہن، بیٹی وغیرہ اور اجنبی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے خواہ وہ شہوت و طی ہو یا محض لذت نظر، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امرد کو شہوت کی بنا پر



چھوٹا ہے تو اس کا وضو اسی طرح ٹوٹ جائے گا جیسے شہوت سے کسی عورت کے چھونے سے امام مالکؒ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے یہی ایک قول امام احمدؒ کا بھی ہے بلکہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا قول یہ بھی ہے جسے انہوں نے ترجیح دی ہے کہ بغیر شہوت کے بھی امرد کو دیکھنا ناجائز ہے فرماتے ہیں یہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اور سد ذرائع کا یہی تقاضا ہے جس کی تفصیل مجموع فتاویٰ (ج ۲۱ ص ۲۴۳ تا ۲۵۸) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

امرد کو دیکھنے کے بارے میں یہ ان حضرات کی آراء ہیں جن کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ پر سب کا اتفاق ہے اور ان کی یہ رائے بالکل حقیقت پر مبنی ہے، علامہ ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ امرد کے فتنے میں بڑے بڑے افاضل مبتلا ہوئے جس کی تفصیل ذم الہوی اور تلیس ابلیس میں دیکھی جاسکتی ہے۔ آج بھی صورت پرستی کی اس بیماری نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور اخلاقی پستی کی اسی اتھاہ گہرائی میں مبتلا ہے جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی۔ اور ظاہر ہے اس فتنے سے تبھی محفوظ رہا جاسکتا ہے جب اسلاف کے طریقہ کے مطابق امرد کی مصاحبت سے حتی الامکان احتراز کیا جائے اور اس کی طرف دیکھنے سے بہر آئینہ پرہیز کیا جائے۔

## محرمات کو دیکھنا

غیر محرم اور امرد کی طرف دیکھنا ہی منع نہیں بلکہ مکملی لگا کر محرمات کی طرف دیکھنا بھی درست نہیں امام عامر بن شراحیل شععیؒ جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے سے امام قرطبیؒ نے نقل کیا ہے کہ

”کرہ الشعبی أن یدیم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته  
و زمانه خیر من زماننا هذا، و حرام علی الرجل أن ینظر إلى  
ذات محرمة نظر شهوة یرددھا“ (تفسیر قرطبی: ص ۲۲۳ ج ۱۲)  
”امام شععی نے مکروہ قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی یا اپنی والدہ یا اپنی  
بہن کی طرف مکملی لگا کر دیکھتا رہے امام قرطبیؒ فرماتے ہیں ان کا دور ہمارے  
دور سے بہتر تھا۔ (خیر القرون میں جب وہ یہ حکم لگا رہے ہیں تو اب

فتنے و فساد کے دور میں اس کا کیا حکم ہوگا) اس لئے آدمی پر محرّمات کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔“

یہی بات علامہ ابن القطان نے امام ابن عبد البر کے حوالے سے نقل کی ہے۔

(النظر فی احکام النظر: ص ۳۱۲)

امام حسن بصریؒ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ میں سے اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کے علاوہ کسی کے بالوں کو نہ دیکھو۔ (الادب المفرد: رقم: ۳۶۶)

آج بھی آئے دن اس کا اہتمام نہ کرنے کے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا ہے کہ جب گھر میں بچے دس سال کے ہو جائیں تو انہیں علیحدہ علیحدہ چار پائیوں پر سلایا جائے ایک ہی بستر میں انہیں نہ سلایا جائے۔ (ابوداؤد، احمد) اسی کا تقاضا ہے کہ اس دور میں جوان بیٹے اور بیٹی کو تنہا ایک جگہ رہنے کا موقع نہ دیا جائے۔

## تصویر بینی

نظر کو جن چیزوں سے بچانا چاہیے ان میں ایک عریاں تصاویر ہیں۔ وہ اخبارات و اشتہارات میں ہوں، فلموں، ٹی وی اور وی سی آر میں ہو، ان کی طرف دیکھنا درست نہیں۔ بالخصوص فلموں اور ٹی وی وغیرہ پر خوبصورت رقاصوں کا بے ہودہ رقص مختلف سازوں اور طبلوں کی تھاپ پر پاؤں سے باندھے گھنگھر ووں کی جھنکاریں، تفریح کے نام پر نشر ہونے والے اخلاق سوز پروگرام، حیا سوز حرکات و سکنات عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے چپکنے اور گلے ملنے کے مناظر جن سے فحاشی پھیلتی ہے۔ بدکاری کا رجحان بڑھتا ہے، نگاہوں کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے۔ تفریح کے نام پر یہ سلسلہ پہلے سینما بینی تک محدود تھا مگر اب ٹی وی وغیرہ کے ذریعہ یہ فلمیں گھر گھر دیکھی اور دکھائی جا رہی ہیں۔

اسی طرح کھیلوں کے مناظر بھی ٹی وی وغیرہ پر نشر ہوتے ہیں۔ جن میں بسا اوقات براہ راست عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی ہیں بلکہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور دیکھنے والے تماشاچیوں کی بھیڑ میں جہاں کہیں عورتیں اپنی پوری مزہم دلائل و براہین سے مزین موضوع و منظر موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ سے اپنی

گرفت میں لے کر آرٹ کی شرط پوری کرتا ہے اور یوں تشنہ ننگا ہوں کی سیرابی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ بتلائیے جہاں یہ سب کچھ تفریح کے نام پر ہو رہا ہو، کیا وہاں اس کے نتیجے میں زنا، بدکاری اور لڑکیوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ برے جذبات نہیں بھڑکیں گے؟ بلکہ اب تو اخبارات میں گاہے بگاہے ٹی وی کے برے اثرات سے باخبر کیا جانے لگا ہے۔ کہ اس سے قتل، ڈاکہ، اغوا، مار دھاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے اور مجرم نوجوان خود عدالتی تحقیقات کے دوران اس حقیقت کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ لیت ہمیں ٹی وی سے پڑی ہے۔ علاوہ ازیں ٹی وی دیکھنے سے بینائی پر اس کے برے اثرات سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے مگر ٹی وی کی دلفریبی کے سامنے یہ آواز صدا بصر اثابت ہوئی ہے ویسے بھی اس نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ یہ سارے مفاسد اس بات کے مقتضی ہیں کہ شہوت انگیز تصویریں دیکھنے سے اجتناب کیا جائے اور ٹی وی وغیرہ سے احتراز کیا جائے۔ کیونکہ یہ ﴿اِنَّهُمَا اَعْزَبُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ کا مصداق ہے کہ اس میں فائدہ کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔

## بدنگاہی کا انجام

نظر کے فتنے اور فساد کا کوئی بھی صاحب بصیرت انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس فتنے میں مبتلا انسان کا انجام آخرت ہی میں برائیاں ہوگا، بلکہ بسا اوقات اس کا خمیازہ یہاں بھی بھگلتا پڑتا ہے۔ دنیا میں اس کے انجام میں مبتلا ہو کر انسان اگر راہ راست پر آجائے تو یہ بہر نوع اس کی اخروی کامیابی کی علامت ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ لِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ عَقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا“

”کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا

میں اس کے جرم کی سزا دے دیتے ہیں“

حافظ ابن جوزیؒ نے اس روایت کا پس منظر یوں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی آپؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جس کا خون بہہ رہا تھا آپؐ نے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا میرے پاس سے ایک عورت گزری، میں نے اس کی طرف

دیکھا، پھر اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ سامنے ایک دیوار آئی تو اس نے مجھے دیوار سے دے مارا۔ جس سے یہ خون بہہ نکلا۔ آپؐ نے فرمایا اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اس کے جرم کی سزا جلد دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن مرة جن کا ذکر خیر پہلے بھی گزر چکا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا وہ مجھے بڑی پسند آئی کچھ عرصہ بعد میری بینائی جاتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سزا اسی عورت کو دیکھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ غور فرمایا آپؐ نے؟ کہ امام عمرو بن مرة جو عظیم محدث اور صحاح ستہ کی راوی ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میری بینائی کے چلے جانے کا سبب یہ ہے کہ میں نے غیر محرم کو دیکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (الشوری: ۳۰)

”کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر ہے۔“

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

(الروم: ۴۱)

”دشمنی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے“

دنیا دار العمل ہے دار الجزاء نہیں۔ یہاں کسی عذاب اور انجام میں مبتلا ہو جانا

محض آئندہ کے سخت ترین عذاب سے بچنے کا الارم ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ﴾ (السجده: ۲۱)

”اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی چھوٹے عذاب کا مزا

انہیں چکھاتے رہتے ہیں شاید کہ یہ (باغیانہ روش سے) باز آجائیں“

غور کیجئے کہ اسی قرآنی تعلیم کی بنا پر حضرت عمرو بن مرة نے فرمایا کہ یہ میری

غلطی کا نتیجہ ہے۔ یادش بخیر امام محمد بن سیرین جن کے علم و فضل سے زمانہ واقف ہے،

تجارت کرتے تھے ایک بار تجارت میں جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ۸۰ ہزار کا خسارہ

ہوا۔ یہ خسارہ معمولی نہ تھا دیوالیہ ہو گیا۔ قرض داروں نے مطالبہ شروع کر دیا ایک عورت نے بھی قاضی کے ہاں شکایت کر دی اور مطالبہ کیا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے یہ میرا قرض ادا نہیں کر رہے، چنانچہ قاضی نے قید کی سزا سنائی، میل ملاقات کے لئے شاگرد اور رفقاء جیل میں آتے تو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتے:

”اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے سے میں آپ لوگوں کو جو روکتا تھا وہ اسی خطرے کی بنا پر تھا جو آج میرے سامنے ہے۔ یہ اسی شہرت کا نتیجہ ہے جو تمہاری آمد و رفت کی بدولت مجھے حاصل ہوئی اور شہرت نے بالآخر یہاں جیل بھجوا دیا اور کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ابن سیرین ہے، جس نے لوگوں کا مال کھایا ہے“

یہ بات تو عام شاگردوں اور ساتھیوں سے تھی جس سے ان کی اخلاقی گرفت کے متعلق احساسات کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر جو بات خاص طور پر اپنے محرم راز امام عبداللہ بن ماعون سے کہی تھی، اسے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن سیرین نے ایک دن کہا:

”یہ قرض اور جیل کی مصیبت جو آج میرے سامنے ہے چالیس سال پہلے میری ایک غلطی کا نتیجہ ہے۔“  
یہ غلطی کیا تھی؟ فرماتے ہیں:

”قلت لرجل من اربعین سنة: یا مفلس“

”میں نے چالیس سال پہلے ایک شخص کو مفلس کہا تھا یہ سزا میری اسی

غلطی کا نتیجہ ہے“ (الزهد للامام احمد، حلیۃ الاولیاء)

امام ابن الملقن نے ذکر کیا ہے کہ محمد بن موسیٰ الواسطی نماز جمعہ پڑھنے جا رہے تھے کہ چلتے ہوئے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے فرمایا:

”إنما انقطع لأنی لم اغتسل للجمعة و اغتسل بعد

ذلك“ (طبقات الاولیاء: ص ۱۲۹)

”یہ تسمہ اس لئے ٹوٹا ہے کہ میں نے جمعہ کے لئے غسل نہیں کیا اس کے

بعد انہوں نے غسل کیا،

غور کیجئے کہ نبی کریم ﷺ نے جمعہ کے روز غسل کا حکم دیا۔ یہ غسل کئے بغیر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جو تے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا سبب حکم کی نافرمانی قرار دیتے ہیں مگر ہم اسباب کی اس دنیا میں اس قدر الجھے ہیں کہ اصل حقیقت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو کر رہ گئی ہے۔ بعض اللہ والوں کا تو کہنا ہے، جب مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے اثر سے میری بیوی، میرا گھوڑا بھی مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے الداء والدواء ملاحظہ فرمائیں۔

امام ابن قیمؒ نے ذکر کیا ہے کہ ایک بڑے عبادت گزار نے ایک امر کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال میں سر دھننے لگا، رات کو سو یا تو کیا دیکھتا ہے کہ کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے ”لتجدن غبھا بعد اربعین سنة“ کہ اس کا انجام تمہیں چالیس سال بعد معلوم ہوگا۔ (الداء والدواء ص ۷۶)

امام ابو عبد اللہ بن الجلاءؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کھڑا ایک خوبصورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا کہ امام عبد اللہ اللہیؒ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے فرمایا کیسے کھڑے ہو؟ میں نے کہا آپ اس خوبصورت کو دیکھتے ہیں ایسا چہرہ بھی جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا؟ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ”لتجدن غبھا ولو بعد حین“ اس کا نتیجہ تم ضرور دیکھو گے اگرچہ کچھ مدت گزر جائے۔ ابن الجلاءؒ کا بیان ہے کہ چالیس سال بعد مجھے قرآن بھول گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب وہی عیسائی لڑکے کی طرف دیکھنا تھا۔ (ذم الھوی: ص ۱۰۲)

خطیب بغدادیؒ نے اور انہی کی سند سے علامہ ابن جوزیؒ نے ذکر کیا ہے کہ ابو الا دیانؒ نے بیان کیا کہ میں اپنے استاد ابو بکر الذقاقؒ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکا پاس سے گزرا، میں اس کی طرف دیکھنے لگا، میری یہ حرکت میرے استاد نے دیکھی تو کہا اس کا انجام کسی نہ کسی وقت تم پا لو گے بیس سال گزر گئے میرے دل میں اس کا کھٹکار ہا ایک رات میں اسی فکر میں سویا صبح اٹھا تو قرآن پاک بھول چکا تھا۔

(تاریخ بغداد: ص ۴۳۳ ج ۵ ذم الھوی)

حافظ ابن جوزیؒ نے اس قسم کے اور واقعات بھی ذم الہوی اور تلبیس ابلیس میں نقل کئے ہیں۔ مگر ہمارا مقصد اس سلسلے میں ان تمام کو جمع کرنا نہیں۔ بلکہ صرف اس بات سے خبردار کرنا ہے کہ گناہ کا انجام بڑا خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کا نتیجہ انسان اس دنیا میں بھی پالیتا ہے اللہ تعالیٰ کی معصیتوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں آلام و مصائب سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے، مگر افسوس وہ اسے اپنی کسی غلطی کا نتیجہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے کسی نہ کسی ظاہری علت و سبب سے منسلک کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے۔ (اعاذنا اللہ منہ)

## کسی کے گھر میں جھانکنا

اسلام دوست و احباب اور رشتے داروں سے میل ملاقات کا حکم دیتا ہے اور ان کے گھر جانے کی بھی اجازت دیتا ہے البتہ اس سلسلے میں کچھ آداب کو ملحوظ رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ عَنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْبَتِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (ابو داؤد، الادب المفرد دو غیر ہما)

”رسول اللہ ﷺ جب کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے بلکہ اس کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیکم السلام علیکم کہتے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا جب کسی دوست یا عزیز کے ہاں جایا جائے تو گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں، بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہئے اور السلام علیکم کہہ کر اندر آنے کی اجازت لینا چاہیے۔ حضرت سعدؓ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اندر گھر میں آنے کی اجازت طلب کی تو آپؐ نے فرمایا: ایک طرف ہو کر کھڑے ہونا چاہیے نظر ہی کے لئے تو اجازت لی جاتی ہے۔ یعنی دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے نظر گھر

کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس لئے ایک طرف ہو کر کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے دروازے کے ایک سوراخ سے اندر جھانکا، آپ کے ہاتھ میں کنگھی نما کوئی لکڑی تھی جس سے آپ سر کے بال درست کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا:

”لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعْنَتْ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ“ (بخاری و مسلم)

”اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں دے مارتا، اجازت تو آنکھ ہی کی بنا پر طلب کی جاتی ہے۔“

اگر آنکھ سے گھر کے اندر دیکھ ہی لیا تو پھر اجازت کے کیا معنی؟ بلکہ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کسی کے گھر کے اندر دیکھے اور اہل خانہ کنکری اٹھا کر اسے دے ماریں، جس سے اس کی آنکھ زخمی ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم) بلکہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے اہل خانہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

”مَنْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ.“

”کہ جو شخص کسی کے گھر بغیر ان کی اجازت دیکھتا ہے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو اس کی نہ ہی دیت ہے اور نہ قصاص۔“

غور کیجئے اگر کوئی ظالم کسی کی ایک آنکھ نکال دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور قصاص میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی یا اس سے پچاس اونٹ نصف دیت وصول کی جائے گی۔ لیکن اگر یہی آنکھ دیانت و امانت کا مظاہرہ نہیں کرتی، کسی کے گھر داخل ہو جاتی ہے تو اس کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر کوئی ہاتھ ربع دینار یعنی ایک چوتھائی دینار کے برابر چوری کرے تو اسے کاٹ دینے کا حکم ہے لیکن اگر کوئی کسی کا ہاتھ ظلماً کاٹے تو اس سے نصف دیت وصول کی جائے گی۔ اسلام معاشرے کو



امن و سکون اور امانت و دیانت کا گوارہ بناتا ہے۔ جو اس میں رخنہ اندازی کی کوشش کرتا ہے اسے ناسور کی طرح کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے۔ گھر تو بنایا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اہل خانہ کی جان و مال اور عزت اس میں محفوظ رہے اگر کوئی باہر سے گھر کے اندر کا نظارہ کرتا ہے اور پردہ نشین عورتوں کے لئے پریشانی کا موجب بنتا ہے تو اسلام اس کی آنکھ کی ضمانت نہیں دیتا۔

## کسی کے خط کو دیکھنا

خط و کتابت باہم میل ملاقات کا ذریعہ ہے۔ خط میں بسا اوقات مخفی اور راز دارانہ باتیں بھی ہوتی ہیں جو کتاب و مکتوب کے مابین امانت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح کسی دوست کی تحریر بلا اجازت دیکھنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے کسی کے خط کو بلا اجازت دیکھنے سے منع کیا، بلکہ بڑے تہدید آمیز انداز میں فرمایا:

”مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بغيرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ“

(ابو داؤد مع العون: ص ۵۵۳ ج ۱، البيهقي)

کہ جو شخص اپنے بھائی کی تحریر کو بلا اجازت دیکھتا ہے وہ دراصل آگ کو

دیکھتا ہے“

یہ روایت گوضیف ہے مگر امانت کا تقاضا ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ حضرت امام عبدالرحمن بن مہدی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امام ابو عوانہ کی کتاب کو بلا اجازت دیکھا تو دوبار اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کی۔ (الآداب الشرعية: ص ۷۶ ج ۲) اگر کسی کے مکتوب میں مسلمانوں کے نقصان اور ان کے مفاد عامہ میں ضرر کا اندیشہ ہو تو اسے دیکھا جاسکتا ہے، امام بخاری نے کتاب الاستیذان میں ”باب من نظر فی کتاب من یحذر علی المسلمین لیستبین أمره“ باب قائم کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جس میں انہوں نے حاطب بن ابی بلتعہ کے خط کا ذکر کیا ہے جسے انہوں نے اہل مکہ کے نام لکھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت ابو مرثدہؓ کو اس عورت کے

پیچھے روانہ کیا جس کے ہاتھوں یہ خط حاطبؓ نے بھیجا تھا۔ جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں ملاحظہ ہو۔  
 ہونج الباری (صفحہ ۳۷ جلد ۱۱)

## مخطوبہ کو دیکھنا

شادی سے پہلے جس عورت سے نکاح کا پروگرام ہو اسے دیکھنا جائز ہے تاکہ عورت کے بارے میں کوئی بات کہنے کی نوبت نہ آئے اور آئندہ کوئی بد مزگی پیدا نہ ہو، چنانچہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ“ (ابو داؤد، مسند امام احمد)

”تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، وہ اگر اس چیز کے دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے جو اس عورت کے نکاح کی طرف داعی ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے دیکھ لے“

ایک صحابیؓ نے ایک انصاری عورت سے شادی کا پروگرام بنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے دیکھ لو کیونکہ انصاری آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ (نسائی، احمد) معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت یا خاندان میں کسی عیب کا احتمال ہو تو شادی سے پہلے دیکھ کر اطمینان کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں اعتراض و اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ اسے دیکھنے میں بھی پورے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ چوری چھپے دیکھ لیا جائے، یہی کافی ہے۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا اور میں نے چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ (ابوداؤد) اسی طرح محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے میری نسبت ہوئی میں نے چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی ایک روز میں نے اسے اپنے باغ میں دیکھ لیا۔ ان کی اس حرکت پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ہو کر ایسا کرتے ہو تو انہوں نے فرمایا میں نے خود آپ سے سنا ہے کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (ابن ماجہ، احمد) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کا پروگرام بنایا، اس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا: کیا تو نے اسے دیکھ لیا

ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، یہ تمہارے درمیان پائیدار محبت قائم رہنے کا باعث ہے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں اس عورت کے گھر گیا۔ اس کے والدین اس کے پاس تھے اور وہ پردہ میں تھی۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں اسے دیکھ لوں وہ دونوں تو خاموش رہے، مگر اس لڑکی نے پردہ کو ایک جانب کر کے کہا کہ اگر تجھے رسول اللہ ﷺ نے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے تو مجھے دیکھ لو، اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو مت دیکھو، چنانچہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ (ترمذی، بیہقی)۔ اور آنحضرت ﷺ نے ایک عورت کو دیکھنے کے لئے ام سلیمؓ کو بھیجا تھا (مسند احمد وغیرہ) انہی روایات کی بنا پر ائمہ فقہاء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جس عورت سے شادی کا ارادہ ہو اسے دیکھنا جائز ہے اور یہ دیکھنا بھی استحباب اور ندب پر مبنی ہے ضروری نہیں۔ اگر معلوم ہو کہ عورت کا ولی نکاح پر راضی نہیں تو پھر اسے دیکھنا جائز نہیں۔ امام نوویؒ نے اس بارے میں بڑی مفید باتیں لکھی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے شادی کا ارادہ ہو اسے دیکھنے میں عورت کی رضا ضروری نہیں۔ عورت کی غفلت میں چوری چھپے بھی دیکھا جاسکتا ہے اس معاملے میں عورت کو اجازت دینے میں حیا دامن گیر ہوتی ہے اور معاملہ بھی بسا اوقات یقینی نہیں ہوتا۔ دیکھنے کے باوجود مرد شادی نہیں کرتا، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ عورت کے لئے اس کا انکار اذیت اور دلی تکلیف کا باعث بنتا ہے اور اگر اسے بغیر اطلاع کے دیکھ لیا جائے اور شادی نہ کرے تو یہ اقدام عورت کے لئے پشیمانی کا سبب نہیں بنتا، اس لئے بہتر یہ ہے کہ شادی کا باقاعدہ پیغام بھیجنے سے پہلے دیکھ لیا جائے تاکہ اگر پسند نہ آئے تو بغیر کسی تکلیف و پریشانی کے معاملہ ختم ہو جائے اور اگر خود دیکھنا ممکن نہ ہو تو کس ایسی عورت کو اسے دیکھنے کیلئے بھیجا جائے جس پر اعتماد ہو تاکہ وہ آکر صحیح خبر دے اور یہ سب کام نکاح کی بات چیت کرنے سے پہلے ہو جانا چاہیے (شرح مسلم، ج ۱ ص ۴۵۶) امام نووی کی بات بڑی حقیقت پسندانہ ہے اور اس باب میں وارد شدہ روایات کے خلاصہ پر مبنی ہے اسلام نے میاں بیوی کے مستقبل کی بہتری کے لئے ایک دوسرے کو دیکھنے کی بس اجازت دی ہے اس میں مزید تجسس و تعق اور پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف و ملاقات اسلام کا نہیں مغرب کا مزاج ہے جس کا نتیجہ بھی اکثر و بیشتر غلط نکلتا ہے۔

## مخنت کا دیکھنا

مخنت یعنی بیجوا ہمارے معاشرے میں بے ضرر سمجھا جاتا ہے اس لئے وہ بلا حجاب اور بلا روک گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ گانا بجانا، ناچنا اور ڈانس کرنا ان کا شعار بن گیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس پر گھروں میں آنے پر پابندی نہیں تھی مگر ایک وقت بعد اس پر پابندی عائد فرمادی۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک مخنت تھا جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین اپنے ہاں گھروں میں آنے دیتی تھیں۔ ایک روز رسول اللہ ﷺ حضرت ام سلمہؓ کے ہاں شریف فرماتے کہ آپؐ نے اس مخنت کو حضرت ام سلمہؓ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس نے بادیہ کے حسن و جمال اور اس کے جسم کی تعریف کرنا شروع کر دی اور اس کے پوشیدہ اعضا تک کی صفت بیان کر ڈالی، آپؐ نے اس کی یہ باتیں سنیں تو اسے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دیں۔ پھر آپؐ نے حکم فرمایا: کہ اس سے پردہ کیا کرو اور آئندہ یہ گھروں میں داخل نہ ہو اس کے بعد آپؐ نے اسے مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنتوں کو بھی گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمادیا (بخاری و مسلم) اس لئے غیر محرم ہی کے لئے نہیں مخنت کے لئے بھی کسی عورت کی طرف دیکھنا یا گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا منع ہے۔

## شرمگاہ کو دیکھنا

بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی شرمگاہ کو دیکھے حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى

عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ“ (مسلم، مسند احمد)

”کوئی آدمی کسی آدمی کی شرمگاہ نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ

نہ دیکھے“

جس طرح عورت یا مرد باہم ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے اسی طرح کسی عورت کو مرد کی یا مرد کو کسی عورت کی شرمگاہ دیکھنا بھی بالاجماع حرام ہے۔ زندہ ہی نہیں بلکہ انسان میت ہو تب بھی اس کی شرمگاہ دیکھنا ناجائز ہے اس لئے غسل کے وقت ناف اور گھٹنوں تک کپڑا ڈال لینا چاہیے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَنْظُرُ إِلَىٰ فَيْحِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ“ (ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم وغیرہ)  
 ”کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران کو مت دیکھو“

یہ روایت گوزعیف ہے مگر دوسری روایات اس کی مؤید ہیں جیسا کہ علامہ شوکانی نے نیل الاوطار (ص ۵ ج ۲) میں کہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے نقل کیا ہے کہ اجنبی عورت کی ہڈیوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ (نفع المفتی والسائل، ص ۱۱۳)، ایک حدیث کے تو الفاظ ہیں۔

”مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ عَوْرَةِ أَخِيهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ

لَيْلَةً“ (احبار اصبهان: ص ۳۰۸ ج ۲ کنز العمال: ص ۳۳۰ ج ۵)

”کہ جس نے اپنے بھائی کی شرمگاہ کو قصد دیکھا اللہ تعالیٰ اس کی چالیس

راتوں کی نماز قبول نہیں کریں گے“

مگر یہ روایت سنداً کمزور ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ فرماتے ہیں کہ: ”الْأَنْظُرُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الصَّغِيرِ كَمَا لَنْظُرِ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْكَبِيرِ“ ”کہ بچے کی شرمگاہ کو دیکھنا اسی طرح ہے جیسے بڑے کی شرمگاہ کو دیکھا جائے۔ (شعب الایمان: ص ۶۲ ج ۶) البتہ والدین یا دودھ پلانے والی کا حکم اس سے مستثنیٰ ہے۔

بنی اسرائیل کی ایک بد عادت یہ بھی تھی کہ وہ سرعام ننگے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے تھے (بخاری: ص ۴۲ ج ۱) اس کے لئے انہوں نے ”حمام“ بھی بنا رکھے تھے۔ آج بھی یورپ کی اندھی تقلید میں فائیسٹار ہوٹلوں کے تالابوں میں ننگے نہانے کا شغل جاری ہے۔ ہمارے اسلاف اس مسئلے میں کتنے محتاط تھے؟ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ابو بکر بن میمون فرماتے ہیں۔ میں ایک بار امام محمد بن ابی نصر الحمیدی

کے ہاں گیا دروازہ کھٹکھٹایا میں نے سمجھا کہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو وہ تہائی میں رانوں سے کپڑا ہٹا کر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آزر دہ خاطر ہوئے اور رونے لگے اور فرمایا: ”وَاللّٰهُ لَقَدْ نَظَرْتُ اِلَى مَوْضِعِ لَمْ يَنْظُرْ اَحَدٌ مِنْذُ عَقَلْتُ“ (السير: ص ۱۱۲ ج ۹ التذکرہ: ص ۲۸۱) اللہ کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تیرے سوا میری رانوں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سے آپ ہمارے اسلاف کے کردار کی بلندی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ البتہ میاں بیوی کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے اور علماء ان کے لئے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ تاہم حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا بھی بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا مکروہ ہے۔ (فتح الباری: ص ۳۳۹ ج ۹) اسی طرح علاج معالجہ کی صورت یا تحقیق و تفتیش کی ضرورت استثنائی نوعیت کی ہے۔ ﴿لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا﴾ کا یہی تقاضا ہے۔

## خاوند کے پاس دوسری عورت کا تذکرہ

اسلام نے عورت کی عزت و عصمت کی جس طرح حفاظت کی ہے کسی بھی دوسرے مذہب میں اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کر دیا ہے جو غیر محسوس انداز سے بھی عورت کی عفت و عصمت کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ تُنْعِتُهَا لِرُؤُوجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا“

(بخاری و مسلم)

”کہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اس طرح نہ رہے ہے کہ اس کی

حالت اس طرح اپنے خاوند سے بیان کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے“

اس لئے کسی بھی عورت کو اپنے خاوند کے پاس کسی دوسری عورت کے حسن و جمال

اور اس کے جسم کے بناؤ سنگار کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی فتنے سے خالی نہیں۔ بلکہ امام

الحنفی فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے عورت کے جوتے کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو محکم کماؤن و براؤن کے مزین مشوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کوئی ایسا کرتا ہے وہ گویا اس کے پاؤں کا ذکر کرتا ہے اور جو پاؤں کا ذکر کرتا ہے وہ عادل نہیں۔ (المنائب للموفق: ج ۹۵ ص ۲۷)

## غیر مسلم عورتوں کے سامنے ستر کا اہتمام

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے یہی اصل بنیاد ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے مسلمان عورت کو اپنے ستر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام نے مسلمان عورتوں کو تو اس عادت سے روکا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس کسی عورت کے جسم کا تذکرہ کریں مگر غیر مسلم عورتیں تو اس کی پابند نہیں۔ اور قرآن مجید میں جن کے سامنے زینت کے اظہار کی اجازت دی ہے ان میں ایک ﴿أَوْنِسَاءِ هُنَّ﴾ یعنی اپنی عورتیں ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور امام مجاہدؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں غیر مسلم عورتوں کے سامنے مسلمان عورتوں کو زینت کا اظہار درست نہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں۔ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمانی رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے۔ (بیہقی: ج ۹۵ ص ۷۷، ابن کثیر: ج ۲۸۲ ص ۳۷) بعض مفسرین نے اس سے مراد میل جول رکھنے والی عورتیں مراد لی ہیں۔ تاہم احتیاط اسی میں ہے جو حضرت عمرؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔

## مجذوم کو دیکھنا

جذام بڑا خطرناک اور موذی مرض ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ بلکہ آپؐ نے اس کی طرف مسلسل دیکھنے سے منع فرمایا چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”لَا تُدِيمُوا النَّظْرَ إِلَى مَجْذُومٍ“ (ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ)

”مجذوم پر اپنی نگاہ مرتکز نہ کرو“

بلکہ (صحیح مسلم: ج ۲۳۳ ص ۲) میں ہے کہ بنو ثقیف کا وفد جب آپ کی خدمت

افس میں حاضر ہوا تو ان میں ایک مجزوم بھی تھا۔ آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ:

”إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ“

”یعنی ہم نے تم سے بیعت کر لی۔ تمہارا آنا درست، تم واپس لوٹ جاؤ۔“ یہ حدیث بھی اس بات کی صریح دلیل ہے کہ مجزوم سے بچنا چاہیے اور اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حفاظتی تدابیر تو کل کے منافی نہیں۔ اور یہ جو روایت مشہور ہے کہ آپ نے مجزوم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: کہ اللہ پر توکل کر کے بسم اللہ پڑھ کر ہمارے ساتھ کھاؤ یہ روایت ضعیف ہے۔

ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھنا

جن چیزوں کو دیکھنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آسمان پر جب ستارہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو تو اس کی طرف نہ دیکھا جائے، چنانچہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوقادہؓ کے پاس اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ پاس بیٹھنے والے اس کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت ابوقادہؓ نے فرمایا کہ:

”إِنَّا قَدْ نُهَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَهُ أَبْصَارَنَا“

(مسند احمد، رجالہ رجال الصحیح، المجمع: ص ۱۲۲ ج ۸)

”ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی نگاہیں اس کے پیچھے لگائیں۔“ امام ابن السنی نے ”عمل الیوم واللیل“ میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی ذکر کی ہے۔ مگر اس کی سند ضعیف ہے۔

اپنے سے افضل کو دیکھنا

اسی طرح مال، دولت، اولاد اور دیگر دنیوی نعمتوں میں اگر کسی کو اپنے سے افضل و بہتر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے صرف نظر کرے اور اپنے سے کمتر پر توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔

”إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ“



فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ“ (بخاری و مسلم)  
 ”جب تم میں سے کسی کی نظر اس آدمی پر پڑے جو مال اور حسن و جمال  
 میں اس سے بڑھ کر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے جو ان فضیلتوں میں  
 اس سے کم ہے۔“

ایسا کرنے سے انسان جہاں حسد کی خطرناک بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے  
 وہاں وہ اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر گزار بنتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن  
 الشخیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَقْلُوا الدُّخُولَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فَإِنَّهُ أُحْرَى أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ

اللَّهِ“ (المستدرک للحاکم)

”کہ اغنیاء کے پاس کم جایا کرو، اس سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر سمجھنے  
 سے محفوظ رہو گے“

یعنی جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، ان کو تم حقیر نہیں سمجھو گے، لیکن  
 اغنیاء کے پاس بکثرت جانے سے تمہیں وہ نعمتیں حقیر نظر آئیں گی جو تمہیں دی گئی ہیں اور  
 یوں ایک طرف ایسا انسان حسد کا شکار ہو جائے گا اور دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں  
 کر سکے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”حَصَلْتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي  
 دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَمَنْ نَظَرَ  
 فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَأَمَّا مَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى  
 مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسْفَ عَلَى مَا فَاتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُكْتَبُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا“

(فتح الباری ص ۳۲۳ ج ۱۱، ترمذی)

”دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس کسی میں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس  
 کو شاکر و صابر لکھ دیتے ہیں۔ جس نے اپنی دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھا جو  
 اس سے کمتر ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اس فضیلت پر جو اسے دی گئی  
 ہے۔ اور جس نے اپنے دین کے بارے میں اپنے سے بلند تر شخص کو دیکھا تو

اس کی اقتداء کی اور جو شخص اپنی دنیا میں اپنے سے بالاتر کو دیکھ کر کف افسوس  
 ملتا ہے تو وہ نہ سنا کر لکھا جائے گا اور نہ ہی صابر“

اس لیے کسی کے مال و دولت، زیب و زینت اور دیگر دنیوی جاہ و جلال کو دیکھ کر  
 حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس  
 لئے حسد سے بچنے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ کسی کے مال و زر پر توجہ ہی نہ دی جائے  
 ۔ اہل ثروت کے ہاں بکثرت جانے سے گریز کیا جائے۔ شیخ الاسلام نے کتنی خوبصورت  
 بات فرمائی ہے ”بِنَسِ الْفَقِيرِ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ وَنِعْمَ الْأَمِيرُ عَلَى بَابِ  
 الْفَقِيرِ“ برافقیر وہ ہے جو امراء کے دروازے پر جائے اور بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے  
 دروازے پر جائے۔

## آئینہ دیکھنے کی دعا

مختلف اشخاص و اشیاء کو دیکھ کر بعض دعائیں پڑھنے کا ایک مقصد یہی اظہار شکر  
 ہے مثلاً آئینہ دیکھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے۔  
 ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَمَا حَسَنْتَ خَلَقْتَنِي فَحَسِّنْ خُلُقِي“

(الا ذکار للنووی)

”یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، اے اللہ! جس طرح آپ

نے میری شکل و صورت اچھی بنائی اسی طرح میرا اخلاق اچھا بنا دے“

امام ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ آئینہ بہت دیکھتے تھے اور  
 سفر میں بھی آئینہ اپنے ساتھ رکھتے، میں نے ان سے عرض کیا آپ آئینہ بکثرت کیوں دیکھتے  
 ہیں؟ انہوں نے فرمایا: آئینہ دیکھ کر میرے چہرے پر جو زینت ہوتی ہے اور دوسرا جو اس سے  
 محروم ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ (کتاب الشکر: ص ۸۳ لابن ابی الدنیا)

## مریض کو دیکھ کر

اسی طرح مریض کو دیکھ کر پڑھنے کی جو دعا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے چنانچہ

رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر جو دعا سکھلائی اس کے الفاظ ہیں۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

خَلَقَ تَفْضِيلًا“ (ترمذی وغیرہ)

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں تجھ کو

بتلا کر دیا ہے اور جس نے مجھے بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی ہے“

یہ دعا مریض کے پاس آہستہ پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ آزرده خاطر نہ ہو لیکن اگر کوئی معصیت اور نافرمانی کے مرض میں مبتلا ہے تو اسے دیکھ کر یہ دعا بلند آواز میں پڑھی جاسکتی ہے۔ تاکہ اسے عبرت ہو، بشرطیکہ کسی مفسدہ کا خطرہ نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادیؒ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جب کسی کو برے عمل میں مبتلا دیکھتے تو یہی دعا پڑھتے اور فرماتے کہ ایمان و عمل کی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے۔

## کسی (آیة) نشانی کو دیکھنا

جو کوئی ایسی نشانی دیکھے جس سے انسان خوف و خطر محسوس کرے تو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ نبی کریم ﷺ کی فلاں زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے اس موقع پر سجدہ کیوں کیا ہے؟ یہ بھی کوئی سجدہ کا باعث ہے تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا“

”کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو“ ”وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ

أَرْوَاحِ النَّبِيِّ ﷺ“ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کا دنیا سے چلا جانا اس سے بڑھ کر اور کون سی نشانی ہوگی (ابوداؤد رقم: ۱۱۹۳، ترمذی وحسن) نبی کریم ﷺ نے چونکہ صحابہ کرام کی موجودگی کو امن کا باعث قرار دیا۔ ان کی وفات گویا امن کے زوال اور خوف و خطرات کے حدوث کا باعث ہے اسی لیے حضرت ابن عباسؓ نے نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ کے انتقال پر سجدہ کیا کہ ان کی زندگی جن برکات کا باعث تھی وہ چل بسیں۔ اس لئے اللہ کے حضور سجدہ

کرتے ہوئے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کیا جائے تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ علامہ طیبی نے فرمایا ہے کہ ”آیت“ نشانی سے مراد چاند یا سورج کا خسوف ہے تو سجدہ سے مراد نماز ہے۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ سے ایسے مواقع پر صلاۃ خسوف ثابت ہے۔ اور اگر سخت آندھی، زلزلہ یا کوئی اور نشانی مراد ہے تو پھر متعارف سجدہ ہی کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا تاہم اس سے نماز بھی مراد لی جاسکتی ہے جیسا کہ آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ جب کسی بات سے خوف زدہ ہوتے تو نماز پڑھتے تھے۔ (عون المعبود: ج ۱ ص ۴۶۴)

## ناپسندیدہ خواب دیکھنا

حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس خواب اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اور تین مرتبہ بائیں طرف کندھے پر ہلکا سا (دم کی طرح) تھوک لے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے تو اس ناپسندیدہ خواب سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)

ابوسلمہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں میں اس قدر خوف ناک خواب دیکھتا تھا جو مجھ پر پہاڑ گرنے سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث سنی پھر مجھے کوئی فکر دامن گیر نہیں ہوئی۔ (موطا)

حافظ ابن حجرؒ نے اس حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ناپسندیدہ خواب نظر آئے تو چھ باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔

- ۱۔ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔
- ۲۔ شیطان کے شر سے پناہ مانگے، تعوذ یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے۔ ابراہیم نخعی سے سند صحیح ہے کہ انھوں نے فرمایا: یوں کہے۔

”اَعُوذُ بِمَا عَادَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللّٰهِ وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ رُوْيَايَ هَذِهِ اَنْ يُصَيَّبَنِي فِيْهَا مَا اَكْرَهَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ“

۳۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اپنی بائیں جانب تھو کے۔

۴۔ وہ خواب کسی کو نہ بتلائے۔

۵۔ خواب سے بیدار ہو تو نفل نماز پڑھے۔ (مسلم، ترمذی)

۶۔ جس پہلو پر سویا ہوا ہو اس کو چھوڑ دے اور کروٹ بدل لے۔

(مسلم، فتح الباری: ج ۱۲ ص ۳۷۰)

حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات نے ان کے علاوہ آیۃ الکرسی پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مگر اسکی کوئی خاص دلیل نہیں البتہ عمومی روایت سے استدلال درست ہے۔ علاوہ ازیں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہے کہ انھوں نے خواب میں ڈرنے کا رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: سونے سے پہلے یہ پڑھا کرو۔

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ  
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُون“

(موطا وغیرہ، الصحیحۃ نمبر: ۲۶۴)

”میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے غصے سے اور اس کے

عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے چوکوں سے اور اس

سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں (مجھے تکلیف دینے کے لئے)“

## نیا چاند دیکھنے پر

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نیا چاند دیکھتے تو

یہ دعا پڑھتے۔

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ  
وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ“

(الدارمی: ج ۲ ص ۴۰، ابن حبان)

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ! اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور

سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اور ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق

عطا فرما (اے چاند) ہمارا اور آپ کا رب اللہ ہے“

## چاند دیکھنے پر

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا:

”يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيدِي بِاللَّهِ فَإِنَّ هَذَا الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ“

(ترمذی و قال حسن صحیح والحاکم وغیرہ)

اے عائشہ! اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو یہ العاسق اذوقب ہے۔ سورہ الفلق میں بھی ﴿عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ اور اس کے معنی ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ مگر حضرت عائشہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿العاسق﴾ سے مراد چاند ہے۔ لیکن یہ روایت آیت کے مفہوم کے منافی نہیں۔ چاند رات ہی کی نشانی ہے۔ دن کو اگرچہ چاند آسمان پر ہوتا ہے مگر روشن نہیں ہوتا۔ رات اور چاند کے مفہوم میں تلازم ہے۔ دونوں باہم لازم ملزوم ہیں اس لیے دونوں پر عاسق کے اطلاق میں کوئی منافات نہیں (تفسیر المعوذتین لابن قیم) ویسے بھی چاند کی روشنی حملہ آوروں اور فتنہ پردازوں کے لیے جس قدر ممد و معاون ہوتی ہے۔ مدافعت کرنے والوں کے لیے اتنی مددگار نہیں ہوتی اس لیے چاند کو بھی اگر عاسق آپ ﷺ نے فرمایا ہے تو یہ اندھیرے کے مفہوم سے فی الجملہ خارج نہیں۔ مزید تفصیل کے لئے تفسیر المعوذتین ملاحظہ ہو۔ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ چاند دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جیسے ہم رات کی تاریکی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

## ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیز دیکھ کر

حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب پسندیدہ چیز دیکھتے

تو یہ دعا پڑھتے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ“

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس کے فضل و احسان سے اچھی چیز تکمیل

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاتی ہیں۔“ اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ“

”ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ہے۔“

## آندھی کو دیکھ کر

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہوا کو گالی مت دو۔ آندھی کی ناپسندیدہ صورت دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.“

(مسلم، ترمذی)

”اے اللہ! میں آپ سے اس آندھی کی خیر و برکت اور جو کچھ اس میں خیر ہے اور جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور جو اس میں شر ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے“

(۲) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب تیز و تند ہوا چلتی تو آپ ﷺ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور یہ دعا پڑھتے۔

”اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا“ (الاذکار للنووی)

”اے اللہ! اس ہوا کو ہمارے لئے رحمت بنا اور زحمت نہ بنا، اے اللہ! اسے نفع بخش ہو اپنا نقصان دہ آندھی نہ بنا۔“

## باراں کے وقت

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے: ”صَيِّبًا هَيِّبًا“ اور ایک روایت میں ہے ”صَيِّبًا نَافِعًا“ کہ اے اللہ! اسے نفع دینے والی بارش بنا“ (بخاری، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ابن ماجہ میں ہے کہ جب آپ اِنق پر بادل دیکھتے تو تمام کام چھوڑ دیتے اور یہ دعا

پڑھتے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ“

”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے“

## کسی منکر کو دیکھ کر

حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (مسلم)

”تم میں سے جو کوئی برا کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس

کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے زبان سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو دل سے برا

جانے، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رائی کے برابر

بھی ایمان نہیں، لہذا ہر مسلمان کا حسب استطاعت یہ فریضہ ہے کہ وہ برائی کو روکنے کی

کوشش کرے تاکہ معاشرہ فواحش و منکرات سے پاک اور صحیح اقدار پر قائم ہو۔

## نظر بد کی حقیقت

نظر بد کی تاثیر ایک معلوم حقیقت ہے، جس کا انکار ممکن نہیں قرآن مجید میں بھی

اس کا اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ (القلم: ۵۱)

”اور یہ کافر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں“

حضرت ابن عباس اور امام مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ ﴿لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾

سے مراد ”يعينونك بأبصارهم“ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تمہیں نظر لگانے کی کوشش

کرتے ہیں اور حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نظر بد کی تاثیر حق

ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۵۲۶)



حافظ ابن قیمؒ نے بھی فرمایا ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نظر بد کے اثر سے آپ ﷺ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ بعض ایسے اشخاص جو نظر بد کے لئے مشہور تھے آنحضرت ﷺ کے سامنے لائے گئے اور انھوں نے آپ کو گھور کر کہا، ہم نے تو کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا اور نہ کسی کا ایسا کلام سنا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جب کسی فر بہ اونٹنی پر ان کی نظر پڑ جاتی تو انہیں اپنی نظر بد پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے غلام سے کہہ دیتے یہ ٹوکری لے لے اور فلاں شخص کی اونٹنی کا گوشت لے آؤ۔ اور یوں ایسا ہی ہوتا کہ ان کے گھورنے سے وہ اونٹنی زمین پر گر کر لوٹنے لگتی اور اس کا مالک اسے مجبوراً ذبح کر دیتا۔ (تفسیر المعوذتین)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انھوں نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجتے ہوئے نصیحت کی کہ:-

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكُمُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ لَ تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ اَدْخُلُوْا مِنْۢ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَّمَا اَعْنٰى عَنْكُم مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الآیة (یوسف: ۶۷))

”اے میرے بیٹو! ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا، میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا“ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس، محمد بن کعب، مجاہد، الضحاک، قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لئے انہیں الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونے کا حکم فرمایا تھا۔ کیونکہ وہ پیغمبر زادے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ خوبصورت اور قد آور جوان تھے۔ وہ گیارہ کے گیارہ ایک ساتھ داخل ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی حاسد کی نظر کا شکار ہو جاتے۔ (تفسیر ابن کثیر: ج ۲ ص ۶۳۷) یہی بات علامہ قرطبی نے اپنی (تفسیر ج ۹ ص ۱۲۸) میں اور دیگر مفسرین کرام نے بھی کہی ہے۔

احادیث پاک میں بھی نظر بد کی تاثیر اور اس کی حقیقت کا مختلف انداز میں ذکر آیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الْعَيْنُ حَقٌّ“ نظر کا لگ جانا حق ہے (بخاری نمبر: ۵۷۱۴۰، مسلم) سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہؓ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو اس کی تاثیر برحق ہے۔  
حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

”الْعَيْنُ حَقٌّ تَلُوْرُدُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ، وَالْحَمَلُ الْقِدْرَ، وَإِنَّ أَكْثَرَ  
هَلَاكِ أُمَّتِي فِي الْعَيْنِ“

”نظر کا لگنا حق ہے یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی  
ہے، اور میری امت کی موت کا اکثر سبب نظر لگنے سے ہے۔“

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں (تفسیر ابن کثیر: ج ۲ ص ۵۲۹) یہی روایت معمولی اختلاف الفاظ سے تاریخ بخاری، مسند البزار اور المحلیۃ لأبی نعیم میں بھی مروی ہے اور علامہ البانی نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے (صحیح الجامع نمبر: ۳۱۳۳) حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا آپؐ نے فرمایا: اس کو دم کراؤ اسکو نظر لگی ہوئی ہے۔ (بخاری نمبر: ۵۷۳۹ وغیرہ)

حافظ ابن کثیرؒ نے اس حوالے سے متعدد احادیث اپنی تفسیر (ج ۳ ص ۵۲۶-۵۳۰) میں بیان کی ہیں یہاں ان کا استیعاب مقصود نہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے ذکر کیا ہے کہ جس کی نظر بد لگتی ہے اس کے جذبات خبیثہ جس قدر سخت اور طاقتور ہوں گے اسی قدر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بعض سانپ ایسے ہیں کہ ان کے صرف گھورنے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے اور عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے لندورے اور ذوالطفیتین (چت کبرا) کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ”إِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصْرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ“ (بخاری: ۳۲۹۷) کہ یہ دونوں بینائی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور مادہ کا حمل گرا دیتے ہیں“ اس لئے جب کوئی شری اور حاسد آتش انتقام میں مشغول ہو کر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی یہ زہریلی شعاعیں اس کی ہلاکت اور بیماری کا سبب بن جاتی ہیں (تفسیر معوذتین) آج کل تو مسمریزم اور ہپناٹازم ایک فن بن چکا ہے جس میں قوت نظر سے بیماری میں مبتلا ہی نہیں بلکہ اس ذریعے بیماریوں کا علاج

بھی کیا جاتا ہے اس لئے نظر کے لگنے کا انکار بہر نوع غلط ہے۔

## نظر بد کا علاج

جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اسے کہا جائے کہ وہ کسی برتن میں وضو کرے۔ اس کا یہ مستعمل پانی متاثرہ شخص کے سر اور پشت پر پھینکی جانے سے بہا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوامامہؓ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سہل بن حنیف (جن کا رنگ سفید اور جسم بہت خوبصورت تھا) نے مدینہ طیبہ سے باہر حرار نامی وادی میں غسل کرنے کے لئے فریض اتاری تو حضرت عامرؓ بن ربیعہ نے کہا میں نے اتنا خوبصورت جسم تو کبھی نہیں دیکھا، یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سہلؓ کو بخار ہونے لگا اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس کی نظر لگی ہے؟ لوگوں نے کہا عامرؓ بن ربیعہ کی، آپؓ نے انہیں بلایا اور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے تم نے اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہ کی۔ جب بھی تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو دیکھے اور وہ اسے اچھا لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لئے برکت کی دعا کرے۔ (گویا اس برکت کی دعا سے نظر کا اثر نہیں ہوگا) پھر آپ ﷺ نے حضرت عامرؓ کو حکم دیا کہ وضو کرو اپنا چہرہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھوؤ، اپنے گھٹنوں کو بھی اور چادر کا داہنا حصہ جو جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے وہ دھوؤ، پھر حکم دیا کہ وہ پانی پھینکی جانے سے سہلؓ پر پھینک دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا تو حضرت سہلؓ اسی وقت تندرست ہو گئے۔

یہ روایت موطا امام مالک کے علاوہ مسند امام احمد (ج ۳ ص ۲۸۶، ۲۸۷) ابن

ماجر اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند سے مروی ہے۔ اور اس میں ”داخلة ازاره في القدرح“ کے الفاظ ہیں کہ پیالے میں داخل ازار کو دھوئے۔ اس سے کیا مراد ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ امام ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں کہ اس سے دائیں جانب کی طرف چادر کا وہ حصہ مراد ہے جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو (شرح السنن: ج ۱۲ ص ۱۶۶) یعنی چادر یا شلوار کا وہ دائیں

حصہ جو کمر کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو بھی دھویا جائے۔ وضو کی اسی کیفیت کو بعض روایات میں غسل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے مکمل غسل نہیں بلکہ انہی اعضا کا دھونا مراد ہے۔

(۲) اگر وضو ممکن نہ ہو یا معلوم نہیں کہ نظر کس کی لگی ہے؟ یا عائن وضو سے انکار کر دے تو پھر دیگر ادعیہ مسنونہ سے مریض کو دم کیا جائے۔ مثلاً:

(۱) معوذتین یعنی آخری دو سورتوں کو تین، پانچ یا سات بار پڑھا جائے۔

(۲) مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر تین، پانچ یا سات بار یہ دعا پڑھے۔

(الف) ”بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ، وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ، وَمِنْ كُلِّ

نَفْسٍ اَوْعِيْنِ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ“ (مسلم)

(ب) ”اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِ اَنْتَ الشّٰفِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا

شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا“ (بخاری)

(ج) ”اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ

لَا اَمِيَّةٍ“ (بخاری)

(۳) جس کسی کی نظر بکا اثر ہوتا ہو اسے چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھے تو اس کے

لئے برکت کی دعا کرے جیسا کہ اوپر حضرت ابو امامہؓ کی حدیث میں گزرا ہے۔ علامہ ابن

عبدالبر فرماتے ہیں کہ اسے یوں کہنا چاہیے۔ ”تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، اللّٰهُمَّ

بَارِكْ فِيْهِ“ (شرح الزرقانی علی الموطا)

## فسادِ نظر سے بچنے کا طریقہ

آپ پڑھ آئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر محرم کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے

، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد و عورت کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مگر عورت فطرتاً

جاذبِ نظر اور باعثِ کشش ہے اس لئے اس کے فتنے سے بچنے کے لئے آنحضرت ﷺ نے

بالخصوص نوجوانوں سے فرمایا: ”اگر تم میں استطاعت ہو (یعنی حالاتِ اجازت دیں) تو

شادی کرو۔“

”فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ“ ”یہ نگاہ نیچی رکھنے کا باعث ہے“ (بخاری و مسلم)

(۲) انسان اگر اپنی کمزوری کی بنا پر کسی عورت کو دیکھ کر دل گرفتہ ہو جائے تو ایسی صورت میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے“ (صحیح مسلم) تاکہ وہ کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔

(۳) اسی طرح جب کسی غیر محرم یا امرد پر نظر پڑے تو فوراً اس آیت مبارکہ کا مفہوم دل و دماغ میں لے آئے ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری آنکھ کی خیانت اور دل کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی اور میری حرکت کو دیکھتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔

(۴) نظر کے فتنے سے بچنے کے لئے اگر اس عمل کا اہتمام کر لیا جائے کہ راستے میں ذکر الہی میں مصروف رہے تو بہت حد تک اس سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں مطلوب ہے، بجز چند اوقات کے، جس کی تفصیل کتب اذکار میں موجود ہے۔ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز و عبادت کے لئے ہی بنائی جاتی ہیں، لطف تو یہ ہے کہ صنم کدہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ امام داؤد بن ابی ہند بصری المتوفی ۱۴۰ھ صحاح ستہ کے راوی ہیں اور بڑے ثقہ محدثین و فقہاء میں شمار ہوتے ہیں ابن عدی فرماتے ہیں: کہ ایک بار انہوں نے ہمیں فرمایا: کہ اے نوجوانو! میں تمہیں ایسی بات بتلاتا ہوں، شاید تمہیں اس سے فائدہ پہنچے۔ میں جب نوجوان تھا اور بازار جاتا تو واپسی پر میں اپنے آپ پر لازم کر لیتا کہ فلاں جگہ تک میں ذکر کرتا رہوں گا۔ پھر جب وہاں تک پہنچتا تو پھر اپنے آپ پر لازم کر لیتا کہ گھر تک میں ذکر کرتا رہوں گا۔ (الذکر، السیر) اس لئے راہ چلتے اگر ذکر کا اہتمام کیا جائے تو فساد نظر سے بچا جاسکتا ہے۔

(۵) اسی طرح اگر غیر محرم پر نظر پڑے تو عمل مکافات کے ڈر سے اپنی نگاہیں اس سے پھیر

یعنی چاہئیں۔ یعنی یہ خیال کرے کہ اگر میں کسی کی ماں بہن یا بیٹی کو دیکھوں گا تو کل میری ماں بہن کو دیکھنے والے بھی ہوں گے۔ اگر میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میری عزت کو اپنی نگاہوں کا شکار بنائے تو مجھے کسی اور کی بہو بیٹی کی طرف بھی نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔

www.KitaboSunnat.com

(۶) اسی طرح اگر راہ چلتے کسی خوب رو پر نظر پڑ جائے اور دل مکرر دیکھنے کے لئے چٹکیاں لیتا ہو تو اسے اپنے دل میں یہ خیال جمانا چاہیے کہ مخلوق کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں۔ جو حسن و جمال اور نور کے پیکر ہیں ”إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ“ کا تصور کرے اور ادھر سے اپنی نگاہ پھیر لے۔ حافظ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ شیخ ابو یعقوب طبری نے بتلایا کہ میرے پاس ایک نوجوان میرا خدمت گزار تھا بغداد سے ایک صوفی منش انسان مجھے ملنے کے لئے آیا تو وہ اس نوجوان کی طرف توجہ کرنے لگا۔ میں ایک رات سویا خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو مجھے فرمایا: تم اس بغدادی کو اس نوجوان کی طرف دیکھنے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میری عزت و عظمت کی قسم، مردوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے جو مجھ سے دور ہوتا ہے۔ ابو یعقوب فرماتے ہیں: میں نیند سے بیدار ہوا تو صبح اس بغدادی کو اپنا خواب سنایا اس نے سرد آہ لی، گر اور فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کو غسل دے کر دفن دیا ایک ماہ بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسے گزری؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر زجر و توبیخ کی کہ مجھے ڈر ہوا میری رہائی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ (ذم الہوی)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں لوگو! اپنے دلوں کو ضم کدہ مت بناؤ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ جس گھر میں تصاویر آویزاں ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو جس دل میں دوسروں کی محبت رچی بسی ہو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بیج کس طرح بوئیں گے۔ اس لئے عشق بازی اور دل میں

خوبروؤں کا نیکس جمانا بہر نوع غلط ہے اور اس سے پرہیز لازم ہے۔

## اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ

ایمان خوف ورجا کا نام ہے ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر دل میں فکر مند ہونا اور رونا اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جن خوش نصیب حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سایہ میں رکھے گا ان میں ایک وہ ہے ”جو تہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے“ (بخاری و مسلم) ایک حدیث میں ہے کہ جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو بہہ کرز میں پرگر پڑے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ (حاکم) کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

سلیقہ نہیں مجھ کو رونے کا ورنہ

بڑے کام کا ہے یہ آنکھوں کا پانی

حضرت ابوہریرہؓ سے ترمذی اور نسائی وغیرہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ڈر سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ تا آنکہ دھویا ہوا دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے، یعنی جیسے دھویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاسکتا اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا شخص بھی جہنم میں نہیں جاسکتا۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، انسؓ اور ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے اور دوسری وہ جو اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں بیدار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف یا اللہ کی محبت میں رونا حضرات انبیاء کرام، صدیقین اور صلحاء امت کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ ”كَانَ رَجُلًا بَغَاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنِيهِ“ وہ بہت رونے والے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں حافظ ابن جوزیؒ وغیرہ نے لکھا ہے کہ نماز کے دوران اتاروتے کہ ان کی آواز پچھلی صفوں میں سنائی دیتی اور یہی حال دیگر اکابر صحابہؓ کا تھا اس سلسلے میں

صلحائے امت کے اقوال و احوال انتہائی سبق آموز ہیں۔ مگر اس تفصیل کی یہاں نہ گنجائش ہے اور نہ ہی یہ ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے عذاب سے بچنے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

## آنکھ اور دل کا مناظرہ

گناہ کے ارتکاب میں آنکھ اور دل جو کردار ادا کرتے ہیں اسے حافظ ابن قیمؒ نے ایک دلچسپ مناظرے کی صورت میں بیان کیا ہے۔ جس کا ذکر یقیناً فائدہ سے خالی نہیں۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ ”نظر قاصد ہے اور دل طالب“ آنکھ دیکھنے سے لذت محسوس کرتی ہے۔ جبکہ دل کامیابی پر لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب دونوں اس میں شریک ہو کر انجام تک پہنچتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو ملامت کرتے اور ایک دوسرے سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے تو نے مجھے ہلاکت میں ڈالا۔ تیری وجہ سے میں مسلسل حسرت و یاس میں مبتلا ہوا۔ سبز باغ سے تو نے رخ پھیرا مگر گلے سڑے بیٹنگن سے تو نے شفا طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو نیچے رکھ، رسول اللہ ﷺ نے بھی تمہیں اسی کی ہدایت فرمائی مگر تو نے کوئی پرواہ نہیں کی، تمہیں معلوم نہیں کہ انسان کو اکثر و بیشتر نقصان تیری یعنی آنکھ اور زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آرام اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آنکھ کو نیچا رکھے اور زبان کی حفاظت کرے، تاکہ تکلیف سے محفوظ رہ سکے۔ آنکھ ہی زنا و بدکاری کا ابتدائی سبب بنتی ہے۔ یہ ایک قاصد کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک کے بعد دوسری بار نظر بھر کر کسی کی طرف مت دیکھو اور آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اس کے جواب میں آنکھ نے دل سے کہا اول و آخر گناہ تیرا ہے، میں تو محض ایک واسطہ و وسیلہ ہوں، تو بادشاہ ہے ہم تیرا لشکر ہیں، اور تیرے تابع دار ہیں، تو نے ہی مجھے قاصد بنایا پھر الٹا مجھے ہی طعن و ملامت کرنے لگا۔ اگر تو حکم کرتا کہ دروازہ بند کر دو، پردے لٹکا دو، تو میں تیری فرمانبرداری کرتی، تو نے مجھے شکار کے لئے بھیجا، مگر اس نے تیرے لئے جال بچھا رکھا تھا، جس میں تو قیدی ہو کر رہ گیا۔ پہلے تو بادشاہ



تھا، اب غلام بن کر رہ گیا ہے۔ سید الانام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے تیرے بارے میں فرمایا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر یہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا ہے کہ دل بادشاہ ہے اور باقی اعضا اس کا لشکر ہیں۔ لہذا اگر تو غور و فکر کرتا تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ فساد کی اصل جڑ تو تو ہی ہے۔ تیری وجہ سے تیرے لشکر میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اگر تو عقلمندی سے کام لیتا تو تیرا یہ سارا لشکر صحیح اور درست رہتا۔ مگر تو خود ہلاک ہو اور اپنی رعیت کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اور خواہ مخواہ ایک چھوٹی سی کمزور اور نازک آنکھ پر سارا نزلہ ڈال دیا کہ نزلہ بر عضو ضعیف می ریزد۔ تیری اصل بیماری یہ ہے کہ تجھ ہی میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کو یاد کرنے سے تجھے کوئی سروکار نہیں، تو نے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف توجہ کی، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دوسروں سے لو لگائی، تمہیں یاد رکھنا چاہیے، کہ بنی اسرائیل نے من و سلویٰ کی جگہ ساگ پات کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان پر اظہار ناراضی فرمایا کہ ﴿اَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ﴾ ”کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو“ اس لئے اس کا کیا حال ہوگا جو اپنے خالق و مالک اور مہربان کی بجائے کسی اور سے محبت کا دم بھرتا ہے، حالانکہ نجات اور فلاح و فوز کا دار و مدار اس میں ہے کہ اپنے خالق و مالک سے محبت کی جائے اور اس کی محبت سب پر غالب ہو۔ ذرا غور تو کرو، تم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کس سے محبت کی؟ اس محبت سے تجھے حاصل کیا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو کانٹوں میں قید کیا، جبکہ اللہ سے محبت کرنے والے عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ اگر تو غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا تو عجائبات قدرت کا مظاہرہ کرتا۔ اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم ہی کو فلاح و فوز کی ضمانت دی ہے اور قلب سلیم وہی ہے جس میں بس اسی کی محبت موجزن ہو، اس کی رضا پر راضی ہو، آنکھ نے مزید کہا: کہ میرے اور تیرے جرم میں وہی فرق ہے جو میرے اندھے ہونے اور تیرے بے بصیرت ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ﴿فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ﴾ ”بلاشبہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ سینوں میں دل اندھا ہو گیا ہے“ جگر

نے جب ان دونوں کا جھگڑا سنا تو اس نے کہا: تم دونوں مجرم ہو۔ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے میں تم دونوں شریک ہو۔ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اور وہ فیصلہ وہی ہے جو کسی نے روح اور جسم کے مابین کیا تھا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ قیامت کے روز روح اور جسم کے درمیان جھگڑا ہوگا جسم کہے گا تو نے مجھے حرکت دی، تو نے مجھے حکم دیا، ورنہ میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہ تھا، اس لئے عذاب تجھے ہونا چاہیے۔ مگر روح کہے گی، کھایا پیا تو نے، زندگی کے مزے تو نے لوٹے، اس لئے عذاب کا بھی تو ہی مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتے کو حاکم بنا کر بھیج دیں گے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ تم دونوں کی مثال اس دیکھنے والے اپانچ اور چلنے والے اندھے کی سی ہے کہ دونوں باغ میں داخل ہوئے، اپانچ نے اندھے سے کہا، میں یہاں بڑے اچھے اچھے پھل دیکھ رہا ہوں لیکن کیا کروں؟ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اندھے نے کہا: میں کھڑا تو ہو سکتا ہوں مگر دیکھ کچھ نہیں سکتا، اپانچ نے کہا ادھر آ، مجھے اپنے کندھے پر اٹھا، میں پھل توڑتا ہوں، پھر دونوں مل کر کھائیں گے۔ اب بتلاؤ سزا کسے ملے گی؟ کہیں گے دونوں کو، جگر نے کہا بس اسی طرح تم دونوں مجرم ہو۔ دونوں سزا کے مستحق ہو۔ (اعاذنا اللہ منہ) (روضۃ المحبین ص ۱۱۶۔ ۱۲۲) اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نظر کی آفتوں سے بچائے، اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سچی محبت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔

”سبحانک اللہم وبحمدک اشہدان لا الہ الا انت

استغفرک واتوب الیک“

ارشاد الحق اثری



Tripple C Computers  
Mob:0321-6610848



## ادارہ کی دیگر مطبوعات

1. العلل المتناہیة فی الأحادیث الواہیة
2. إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر للمحدث شمس الحق الدبانوي<sup>ؒ</sup>
3. المسند للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المشي الموصلي<sup>ؒ</sup> (چھ ضخیم جلدوں میں)
4. المعجم للإمام أبي يعلى الموصلي<sup>ؒ</sup>
5. مسند السراج، للإمام أبي العباس محمد بن اسحق السراج
6. المقالة الحسنی (المعرب) للمحدث عبد الرحمن المبارکفوي<sup>ؒ</sup>
7. جلاء العينين فی تخريج روايات البخاری فی جزء رفع اليدين للشيخ الأستاذ بديع الدين شاه الراشدی<sup>ؒ</sup>
8. امام دارقطنی<sup>ؒ</sup> 9. صحاح سیدہ اور ان کے مؤلفین
10. موضوع حدیث اور اس کے مراجع 11. عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم
12. کتابت حدیث تابعہ تابعین 13. الناسخ والمنسوخ
14. احکام الجنائز 15. محمد بن عبد الوہاب
16. قادیانی کافر کیوں؟ 17. پیارے رسول ﷺ کی پیاری نماز
18. مسئلہ قربانی اور پرویز
19. پاک و ہند میں علمائے اہلحدیث کی خدمات حدیث
20. توضیح الکلام فی وجوب القراءة خلف الإمام
21. احادیث ہدایہ: فنی و تحقیقی حیثیت 22. آفات نظر اور ان کا علاج
23. فضائل رجب للامام ابی بکر الغلال<sup>ؒ</sup> 24. تبیین العجب للعالم ابن حجر العسقلانی<sup>ؒ</sup>
25. مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینہ میں
26. آئینہ ان کو دکھایا تو برامان گئے 27. حرز المؤمن
28. احادیث صحیح بخاری و مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش
28. امام بخاریؒ پر بعض اعتراضات کا جائزہ 29. مسلک اہلحدیث اور تحریکات جدیدہ
31. اسباب اختلاف الفقہاء 32. مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف کا موقف